

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yettoore na woodani ALLA Juulde e kisndam na woni dow Annabaajo mo annabaajo fuf walaa caggal mum Annabaajo meeden MUHAMMAD bi ABDULLAAHI-juulde e kisndam tabiti dow makko-

caggal duum:

Sikke walaa yalla saakugol annde Alsilaamaaku na jogi tabe mawde nder baŋgingol pa'i Alsilaamaaku e tabintingol danjaraŋe[tugaal]DIINA e bantude tomottaare[mofte].

O yelay won mo JAAMI'AH ISLAAMIYA woni gollude ngam hayinyindedum faro laawol noddaandu e jaŋginginde saabe yidugol sooraade ley o golle mawdo *Nyuygal wito annal*nder JAAMI'AH ummi moy y ini ko heewi e gollleeji cinndiidi e annal paydimngal, na woni e diin gollleeji annde teenjude wonande Islaam e moy y e muudum e saakude deen annde ngam himmireede ngal nyuygal beydangol bibbe tomottaare Alsilaamaŋkoore annde ŋeetude cellude faade e Islaam e kabbe [piibemuudum e kiiteeji[nyaawooje] muudum.Ndee jande sinndiinde e [NYUYLE GOONDINAL] wo gootel e porgaraamiji[fiyakuuji]Nyuygal widito Annal , nde ngal yamirno yoga e yimbe KAWTAL JANDE TO JAAMI'AH winndugol ngol baabuwol rewti ngal halfini GOOMU ANNDAL TO NYUYGAL WITO jaŋngude ko winndaa e hibbinde ko nyaki e majjum e yaltinde dum dow mbaaki potuki , wondude e himmireede habbundurgol kiite annedeyarŋkoore majjum e Daliilaaji y uude e Dewtere e Sunna . Nyuygal ngal na himmira-ley nde jande- hubindingol bibbe leydi Alsilaamaaku hebugol annde DIINA nafooje , ko duum wadi de ngal ummani firude nde jande faade haalaaji Duniyaaru lolluci e saakude dum e wattugoldum nder INTERNET .

Na en ndooko[toro] ALLA- mawdo toowdo-wo barjo laamu SAWDI AARAB mbarjaari mawndi timmundi ekobe ngadata e gollleeji mawdi wonand ISLAAAM e saakugoldum e dunyy intinande dum e ko oo JAAMI'AH e wadata e mballa e durngo , na en ndooko ALLA-mawdo toowdo- wo nafirnde jande faabo kawrindinal yaltingol ko heddi e gollleeji NYUYGAL ANNDE e dokke makko e teddeengal makko na'en d'abba-toowdo- faa hannden wo o hawrindin en fuf faadee dum ko o yidi o yarri o wada'en e noddooŋe faade e kanday [peewal] e wallooŋe goonga .ALLA juulu de salmina de barkina dow jeyaado makko Annabaajo makko MUHAMMAD e dow yimbe makko e sahabaabe makko de hisina.

NYUYGAL WIDITO ANNDAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NYUYLE GOONDINAL

Kanji ngoni goondinal ALLA e Malayka, en muudumm e dewteme nulaabem enyalaande sakitotoonde e goondinal koddoruyeeji bondi mubben e lobbi. ALLA -toowdo- wi,i:

﴿ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ﴾
[سورة البقرة: الآية ١٧٧].

[Kanoon moyyuki wo oon goondindfo Alla e nyalaande sakitotoonde e Malayka, en e dewte e annabaabe].

o wi,i katin :

اٰكُلُّ ۤءَاۤمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اٰحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ... ﴿ [سورة البقرة: الآية ٢٨٥].

[Nulaafu ALLA goondini dum ko jippinaa dow mum yuude e joomiiko muumini'en fu ngoondini ALLA e Malayka, en makko e dewte makko e Nulaabe makko men cenndata hakkunde fay gooto e mabbe de be mbi:i men nanii men dowteke yaafaamuye maafa jooma, amen feede e maafa wartirde].

kanjo-toowdo- o wii katin:

اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ [سورة القمر: الآية ٤٩].

(Minen huunde fu men tagiriidum koddoruye)

ANNABIJO-juulde e kisndam tabiti dow mum- kam du wi'i:

((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) [رواه مسلم]

{ Liimaanaaku won goondinaa Alla e Malayka,en mum e dewtem e nulaabem e nyalaande sakitotoonde de ngoondina koddoruye moyy'um muudum e bondummum fu}.

Liimaanaaku[goondinal]won: koɲngol demngal e habbugol e bernde e golle terde na de beydoro dewal na duytoro luttal. ALLA toowdo- wii:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٤﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٥﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ [سورة الأنفال: الآية ٢-٤].

{No wiide muumini,en kam,en ngoni so ALLA miccaama berde mabbekula so aayaaje Alla njanngaama dow mabbe dum bewdanabe goondinal woodfi dow joomiibe tan be tuugoto kambe ngoni darnooɓe juulde sakkooɓe e ko men arjinkiniɓe kambe ngoni muumini,en pay ndelle darjaaji na ngoodaniɓe yuude to joomiibe e yaafaamuye e arjuki tedduɗo}.

o wi'i katin:

أَمْ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [سورة النساء: الآية ١٣٦].

{Oon jankirfo Alla e Malayka,en mum e dewtemum e nulaabemum e nyalaande sakitotoonde hakiika o majji majjere wofdiinde}.

ndelle IIMAANAaku [goondinal] nalaatoro e demngal hono: wadugol jikru e du,agol e yamirde moyyere de hada fanjkarde e janngugol KUR'AAN e ko nanndi e dum.Liimaanaaku na laatoro bernde du hono: goondinal ngootummbaaku Alla ley jeygol makko yimbe e allankaaku makko e inde e sifaaji makko ,e wajibagol rewde Alla kamtan kawto walanaamo ,e dum ko naatata ley de kulle ndagu anniyaaji e peende , najeyaa e liimaanaako[goondinal] faa hannden golleeji berde hono: njiingu Alla e hulde dum e oonyaade feedem e tuugaade dowmum e ko nandi e duum , na jeyaa e liimaanaaku kadin golleeji terde hono: juulde e koorka e ko heddi e rukunuuji lislalam e oorugol Jihaad ngam Alla e dabbugol anndal e ko nandi e dum ALLA- toowdo- wi'i:

ا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴿ [سورة الأنفال: الآية ٢].

{So aayaaje makko njanngaama dow mabbe fu dum beydananbe goondinal}.

o wi'i katin:

ا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

﴿ [سورة الفتح: الآية ٤].

{Kanko jippini deyyere ley berde muumini,en fa be beydoro goondinal wondude e goondinal mabbe}.

Liimaanaaku na beydo kala nde dewe jeyaado Alla

beydii fu ,na duytoo kala nde dewe makko e bade makko duytiif fu. woodi goofi na d'ala tabe dow liimaanaaku . so tawi diin goofi wo sirku mawdo maa jan'kiral man'ngal fu duum na jawta[na firta] pa,i liimaanaaku nguun na bonna dum kaa sotawii goofi diin kewtay noondu di njawta kibbal goondinal ngaal di mbuddina laabal muudum di lo'inadum.

ALLA- toowdo- wi'i:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ... ﴿ [سورة النساء: الآية ٤٨].

{No wiide ALLA yaafataako no sirke e makko kaa omo yaafoo gaaya dum mo,o muuyani}.

o wii katin:

اِيْحٰلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ ... ﴿ [سورة التوبة: الآية ٧٤].

{Ibe kunoo[wuundira] Alla be mbi,aay, hakiika be mbi,ii kojngol keefirdinoowol de be keefordfi[yeddi] caggal alsilaamaaku mabbe}.

mo-juulde e kisndam tabiti dow mum-du:

((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)) [متفق عليه].

(jeenoowo jeenataa wawtu njeenum de tawdee goondinal ,gujjo wujjataa wawtu wujjata de tawde goondinal, jaroowodoro yarataa doro wakkati yarata de tawdee goondinal).

NYUYGAL [RUKUNUWAL]GO,ABAL
[GOONDINGOL ALLA-TEDDU'DO MAW'DO]

(1)Hayinyinde dum:

Goondinal Alla-mawdo teddudo- na laatoro eko warata
dum:

(GO'O): tenynyorde no wiide ngoo tageefo na woodi
joomiyo gooto teeltidindo e tagudengo e jeydengo e
dawrandengo e firringol fiinaanuuj maggo hono
neemingol e hoddorde e golle e wuurnude e
maaynude e nafugol e torrugol, joomiyo fu wala so
wanaa kanko tan, omo wada kanjo tan ko, o muuyi, e
jujngo makko laamu kammuuli e leydi woni ,kanjo
huunde fu imo waawi, huunde imo anndi, o baawdo
kaariya e tanaa makko,kanjo jey fi fu,moy yere fu e
jujngo makko woni,o walaa kawto ley golleeji makko,
walaa jaalotoodo,o ley fi makko,tageefo fu -fay
Maleyka,en e yimbe e ginnaaji wo maccube
makko, be mbaawataa yaltude e laamu makko e
baawde makko e muuyde makko, senagol e nakkisey
woodaniimo, golleeji makko mbaawataa limteede
limoore moobataadi, dee kujje fu wode,o heertorii
hoore makko wode ngedu makko kanjo tan o walaa
kawto tanaa makko haandataa e majje,dagataako
sinndudedede maa tabintindedede wonande gaaya Alla.
ALLA-toowdo- wi'i:

ا يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ... ﴿ [سورة البقرة: الآيتان ٢١ ،
٢٢].

**{Yaa onon yimbe ndewee joommon oon tagudfo,on
onon e wonnoobe yeesomon fu yaama kulon'oon
gad'andfo,on leydi dad'fo de,o wadfi kammu wo
kumbudi de,o jippini yuude e kammu ndiyam de,o
yaltini yuude e ndiyam d'aam bibbe led'fe de,o wadfi
d'um arjuki mood'fon}.**

de,o wii:

ا قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾
﴿ [سورة آل عمران، الآية: ٢٦].

**{Wi:u yaa,aan laamfo jeyfo laamu adfa hokka laamu
mo kaajanadfaa adfa borta laamu yuude e mo kaajadfa
a adfa teddina mo muuyd'aa adfa hoyna mo muuyd'a,
e juugomaa moy yere woni no wiidema wo,a
baawfo huunde fu}.**

o wii:

ا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾ [سورة هود، الآية: ٦].

{Daaba fu laataaki na woni e leydi so wanaa Alla kam jogii nguurey magga omo anndi nyiibirde magga annaaru ɗo e wartirde magga to laakara kala ɗum fu ana woni ley dewtere banjinde}.

Kanƙo-toowɗo- o wii katin:

ا ... أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٤].

{No wiide kanƙo tageefo e fi fu ngoodani barke wo ALLA jom tageefo tabitani}

{DIDABUM}: Habbugol teeldirde Alla-o mawnii o teddii - moy yum e inde e kibbudum e sifaaji, ɗi, o anndini tageefo yoga mubben ley dewtere makko maa ley Sunna nulaado makko MUHAMMAD-mo juulde e kisndam tabiti dowerum-.kanƙo ceniido e nakkise o wii:

ا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٠].

{Inde ɗardufe ALLA ngoodani noddiree, ofe de ɗalon been bewbe ley inde makko be njobeete ɗum ko be ngonnoo ibe ngolla}

ANNABIJO -mo juulde e kisndam tabiti dowerum- wi'i ((إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر)) [متفق عليه].

[ALLA na jogii capandɗe jeenay e jeenay innde oon limtudode naatan Aljanna kanƙo wo, o gooto omo yidi ko wootidi].

Ndelle ngal goondinal ana tuugitii dow layliiji didi mawdi:

GO,O lasliiji diin: anndugol ALLA na jogii inde lobbe e sifaaji toowdi

kollooji kibbal ngal pettel naalagol walaa e mum, nanndaa e makko yerundurtaa e makko huunde fu e tageefooji.Na jeyaa e inde makko -sene e toowndam woodaniimo-innde wi eteende[al hayyu]{buurdo} nde innde na jogii sifa {nguurndam} oo sifa na tilsa tabintina nee,o e dow kibbal potungal e makko.Ndelle dam ngurndam wo kibbungal duumiingal, reentii e ley maggal denneengal nooneeji kibbal y uude hono anndal e baawde e ko nanndi e duum,ndelle nguurndam makko dam baasal ardaakino ngal woodi reere du hebataangal.kanjo ALLA-toowdo- o wii:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴿...﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٥].

{ALLA laamiido dewreteedo goonga fu walaa so wana a kanko wo,o burdo dartiido e jaatim mo ngongol nangataadum wanaa daanagol}.

DIDABUM e layliiji diin:No wiide kanjo ALLA omo senii e sifaaji nyanre [nyanre]e ayiibe welles hono ko nanndi e doyingol maa ronkere maa majjere maa toonya e ko wanaa dum fu wo,o ceniido faahannden e nanndugol e tageefo, na tilsa riiwtugol ko ALLA riiwti e mum kam e nulaadom -mo juulde e kisndam tabiti dow mum-, wondugol e tenynyorde no wiide kanjo ALLA wo,o

ciforiido kibbal laatiingal liddi eko, o riiwti e hoore makko so, en ndiiwti doyingol dow makko fu duum holli tabintingol kibbal daragol makko wonande fiinaanuuji tageefo makko, holli faa hannden tabintingol nguurndam kibbudam, nih kala riiwtugol nakkiseye ALLA fu na holla tabintingol kibbal liddim sabo kanjo won kibbudo tanaa makko wo nyakudo. Kanjo-toowdo- o wii:

ا... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ ﴿سورة الشورى، الآية: ١١﴾.

{Huunde fu laataaki wo yeru makko kanjo won nanoowo ji, oowo}

o wii katin:

ا... وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ﴿سورة فصلت، الآية: ٤٦﴾.

{Jooma wanaa toonyotoofa [toonyotoofa] jeyaaabem}.

o wii katin:

ا... وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ... ﴿٤٤﴾ ﴿سورة فاطر، الآية: ٤٤﴾.

{Neenyantaa ALLA no huunde fu faatoroodum wanaa ley kammuuli wanaa e leydi}.

o wii katin:

ا... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ ﴿سورة مريم، الآية: ٦٤﴾.

{Jooma laataaki wo jeggitoowo}.

Goondingol inde ALLA e sifaajim e golleejim: kam won laawol gootol

annditirteengol ALLA e dewreteengol,o, sabo o wiirnii e yimbe yiirudeo gite ley nguur ndam Aduna gaha duum wadi de,o udditani yimbe damal anndal ngal be mbaawri anndirde joomiibe e tagudobe e deweteedo mabbe, fabe ndewramo no hawrirta e ngal anndal cellungal dewoowo na rewa jom sifaaji, boldinoowo na rewa bolum nanndinkindo,o rewii tooru, juuldo alsilaami na rewa ALLA peenderteedo kumtal haaju mo rimay rimaaka yeru du fu laatanaaki,o.Nahaani nde neddo tabintinta inde ALLA fu tawee taskeke kulle garooje de:

1} Goondingol tabintinde denneengal inde lobbe jergiide ley KUR,AAN e Sunna ngafeeti beydugol huunde dow majje maa duytude. laamdo -toowdo-wi'i:

ا هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [سورة الحشر، الآية: ٢٣].

[Kanko woni ALLA mo laamiidfo dewreteedo goonga f uwalaa sowana kam kaanajke ceniidfo e nakkisey kibbudfo goondindfo nulaabem yellitiidfo e golleeji jeyaabem jom semmbe keewdo doole mawnitiidfo e ko hawrataa e muudfum sene woodanii Alla dum e ko be cirkoto] tabitii e Sunna

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام يا الحي يا القيوم . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" تدرؤن بما دعا الله ؟ قالوا:

اللّٰهُ ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله بأسمه الأعظم الذي إذا
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى [رواه أبو داود و أحمد]

**[No wiide Annabiijo nanii gorko na wi,a: yaa ALLA
mid'o rooke ngam yettoore aan woodani laamiid'o
dewreteed'o goonga fu walaa so wanaaaan kokkoowo
tagud'o kammuuji e leydi yaa aan jom maɗngu e
teddeengal yaa aan buurd'o, keewd'o daranaade fi
tageefom. Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti
dowmum- wi'i:(Na,On anndi ko,o du,ori Alla? ɓe mbi:
Alla e nulaadom tan anndi, Nulaad'o wi: Mi hunoreke
[mi woondiri] mo yonki,am woni e juɗngom o
noddirii Alla inndem mawnde nde sa,o noddiraama
ɗum o jaaboto sa,o nyaagoraamadum, o hokkan)).**

2) Goondingol no wiide ALLA kam inni hoorem neddo fu e tageefo makko inniraymo inde de. Kaŋko-o mawni o senoke- yettiri hoore makko de inde, de nganaa keydude de nganaa tagaade.

3)Goondingol no wiide inde Alla moy yude wode kollude maanaaji kibbudu hibbugol ngol nakkise fu walaa,em ndelle na tilsu goondingol diin maanaaji hono no tilsiri[waddori] goondingol deen inde nih.

4)Tilsugol teddingol maanaaji{firo} deen inde e waasugol waylitindede maa boldingol ko de ngari firude.

5)Goondingol no wiide wootere e inde de fu na wari

hollude e kiiteji[nyaawooje]e ko sinndotoo e mayre e golleji e tabeeji[batte]. ngam banjingol de kujje joy faalaaba men ngadiran misaal{yeru} innde ALLA wi,eteende {Assamii,u} [Nanoowo] na tilsu ley nde innde durde kujje garooje de:

a)Goondinal tabitingol innde [Nanoowo] wo innde jeya ande e inde ALLA lobbe ngam jerga,gol mayre ley KUR,AAN e SUNNA.

b)Goondingol no wiide ALLA kam innirinde hoorem de,o haalidum de,o jippinidum ley dewtere makko teddunde.

b)Goondingol no wiide [Assamii,u] na reentini maanaa nande dum le wo sifa jeyaado e sifaaji ALLA.

c)Wajibagol yaagaade sifa [Nande] mo innde [Nanoow holli e rafi waylitinde dum maa boldingol ko nde wari fiirtude.

d)Goondingol no ALLA na nana huunde fu , woodi nande makko na kuubi kala sawtu[hito]fu . Goondingol katin tabe korgiide e ngaal goondinalhono tilsugol reenugol Alla e hulde,dum e tenynyoral kibbungal no wiide ALLA-mawdo teddundo-huunde fu suudantaakom o.Na haani faa hannden wo,o duru ley tabitingol makko sifaaji Alla ko warata dum:

1) Tabitingol denneengal sifaaji Alla jergiidi ley KUR,AAN maa ley SUNNA ngafeeti waylitingol maa boldingol.

2) Goondinal tenynyoraangal no wiide Alla na sifori kala sifaaji kibbal wo,o ceniido du e kala sifaaji jaytere e ayiibe.

3) Rafi nanndugol sifaaji Alla e sifaaji tagaabe sabo Alla walaa

nanndi wanaa ley sifaaji makko wanaa ley golleeji makko.

o wii:

ا ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [سورة الشورى، الآية:
١١].

[Huunde fu laataaki yeru makko kanjo wo,o nanoow o ji,oowo].

4)Tay ude jikke anndude mbaaki sifaaji diin, sabo walaa fu anndudo mbaaki majji so wanaa Alla kam tan, laawol feede e anndalmajje walanaa tageefo.

5)Goondinal kala ko sodundurta e di sifaaji yuude e kiite[yaawooje] e tabe[battane, sabo kala sifa na jogi dewal.Ngam beydugol labbingol dee kujje joy miccaade men ngadenete misaal dow majjum e sifa { ISTIWAA,U}[potal ALLA dow AL-ARSHI]. Ana tilsi e ley o sifa durugol ko warata dum:

1} Tabintingol oo sifa e goondingol,o ngam yaalirgol makko ley haalaaji SHARIYA ALLA -toowdo- wii:

ا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾ [سورة طه، الآية: ٥].

[Jom hinney kuufdo wo potufodow Arshi mum]

2} Tabintingol sifa potal Alla dow kibbal potungal e teddeengal makko e gadal kaariya makko.

3} Rafi nanndugol potal makko dow Arshi ngaal e potal tageefo sabo Alla wo baawdo kaariya Arshi o haajataakedum, kaa potal tagaado ko yaljimbinidum wo haajeede, dum le ngam konngol ALLA-toowdo-:

ا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ [سورة الشورى،
الآية: ١١].

**[Huunde fu laataaki yeru makko kanko,o nanoowo
ji,oowo].**

4} Rafi lummbugol ley haala mbaaki potal tagudo dow
Alarshi sabu dum wo fi biirniido goddo fu anndaadum
so wanaa ALLA tan

5} Goondinal kiite e tabe codundurde e tabintinal
majngu ALLA e teddeengal makko potungal e makko
mo toowndam bellisiingal makko dow tageefo makko
hullidum, e huccitingol berde feede e makko hono ko
cujidoowo wi,ata[sene woodanii joomam toowdo].

TATABUM: Goondingol jeyaado no wiide ALLA kam
woni laamiido pa,iceltidiido e haandugol dewe fuf
banjude majje e cuudfiide fu kanjo tan kawto
walanaamo. kanjo - toowdo - o wii:

ا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ... ﴿٣٦﴾ [سورة النحل، الآية: ٣٦].

**[Hakiika men nelii feede e kala tomottaare[mofte] fu
nulaado mona wi,aniibe ndewee ALLA de mbodfitodfon
tobbi]**

kala nulaado fu wi,anii yimbem:

ا ... اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ... ﴿٥٩﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٩].

**[Ndewee ALLA on ngalaa dewreedeo goonga fu so
wanaa kanjo]**

Alla-toowdo- wi,ii katin:

ا وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ... ﴿

[سورة البينة، الآية: ٥].

[Be njamiraaka huunde fu so wanaa faɓe ndewa Alla wo ɓe labbinananɓe,o Diina ɓe poocciɓe].

jergoge e ley Dewte hadiis didi cellude no wiide Anna biijo -mo juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,anii MU,AAJ :

{ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله . قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً}.

[Adfa anndi hayye ALLA dow yimɓe e hayye yimɓe dow ALLA? mbiimiAlla e nulaadom tan anndi. o wi,i: hayye Alla dow yimɓe ɓe ndewa,o taɓe cirkoo,o fay seedfa. hayye yimɓe dow Alla ta jukkoo[lettoo] mo sirkaaki,o fay seedfa].

woodi ALLA pay: kam woni mo berde ndewata de keewa njiɗngu makko faa tawee njiɗngu tanaa makko walaa nokku de kenynyitoro jikku makko gaaye tanaa makko, de mbaawa kaariya lamndaade e dabbirgol faandoraade e kulol makko tanaa makko .

ALLA-toowdo-wi:

ا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ [سورة الحج، الآية: ٦٢]

[Dumle sabu Alla kam woni goonga e kobe noddata gaaya Alla dumwon meere Alla kam woni toowfo mawfo].

Ndelle ko wari haaleede haalam joonin d̄um woni ngootin b̄ingol Alla egolleeji jeyaabe.

TEDDEENGAL TAWHIIDI:

Teddeengal tawhiid na b̄anga e ley kulle garooje de:

1}Tawhiid kam woni fuddoode DIINA kam woni hantoodem kam woni ko b̄angi e Diina e ko suudi e muudum fu kam woni noddaandu kala Nulaabe -kisndam tabitii dow mabbe- be fu.

2} Ngam o Tawhiidu wadi faa Alla tagi yimbe de,o neli nelaabe de,o jippini dewte, ngam makko wadi tageefo luuri wobbe wo goondinbe yoga wo heeferbe , wobbe welbe ko,e yoga wo nyaŋko,e.

3}Tawhiid kam woni arande ko tilsi[waddi]dow kala killifaado kaŋko won go,oko jeyaado naatirta Diina Alsilaamaaku, e cakitte ko neddo yaltirta Adunaaru.

HAYINYINGOL TAWHIIDU:

Dum na laatoroo labbinde Tawhiidu oon e kala tuundiiji Shirku e kujje puddaade ley Diina, e goofi.dum le na fecco pecce didi:

feccere arandeere nde wo ko wajibi [tilsi]. dimmere nde wo ko yida.

FECCERE GO,ABERDE [TILSUNDE]:

kam wo kulle tati:

1}Labbingol Tawhiidu e Shirku diiwtoowo layli[pa,i] Tawhiidu

2} Labbingol Tawhiidu oon e kulle beydaade ley

Diina diiwtooje timmal tilsungal wonande tawhiidu maa diiwtooje pa,iTawhiidu so tawi den kulle keefordinooje.

3} Labbindingol Tawhiidu oon e Lutte duwtooje mbarjaari golle maa lutte dalooje tabe dow Tawhiidu.

FECERE DIMMERE [YI DAANDE]:

kam woni yamiraande ley njiŋngu , na jeyaa e hono mayre :

a} Hayinyingol moyyuki.

b} Hayinyingol kibbal tenynynorde.

b} Hayinyingol kibbal sawraare[munyal] lobbere [labaande] e rafi wohtagol feede e tana Alla-toowdo-.

c} Hayinyingol kibbal henynyitoragol rookagol Alla dow rookagol tageefo.

d} Hayinyingol fawtinoraade e[faandaare] dalugol yoga e daannade ndagu dabbugol mocceneede maa sumitagol dalude dum fu ngam wakkilgol dow Alla -toowdo-.

d} Hayinyingol kibbal njiŋngu maccungankeewu e battinoraade feede e Alla e Naafiilaaji.Ndelle kala oon kayinyinirdo Tawhiidu hono no wiiraa nih de,o hisi Shirku mawdo fu hoolaare rafi duumagol ley yiite na woodani,o, oon kisufo Shirku mawdo e pamaro de wodditii mawdum e goofi e lutte fu hoolaare hibbunde na woodani,o aduna e laakara fu.

ALLA-toowdo-wi:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ...

﴿سورة النساء، الآية: ٤٨﴾.

[No wiide ALLA yaafataako sirkeede kaa omo yaafoo gaaya d'um wonande mo,o muuyani].

o wii katin:

اَلَّذِيْنَ وَاٰمَنُوْا وَّلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُوْلٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ

وَهُمْ مُّهُتَدُوْنَ ﴿سورة الأنعام، الآية: ٨٢﴾.

[Been goondinbe de be njillay goondinal maɓbe ngal fu Shirku been hoolaare na woodaniɓe kambe ngoni handitiɓe].

LIDDI TAWHIIDU[SHIRKU]

Dum na feccoo pecce tati:

1} SHIRKU MAWDO: oon woni diiwtoowo layli[pa,i] Tawhiidu Alla yaafataako oon so wanaa nde joomum tuubi, kala oon maayduɗo e ,o shirku wo duumotooɗo ley yiite[jayngol] oon shirkule won hono wad'angol Alla nanndo[jogitagol deweteedo godɗo gaaye Alla]. na,onodda,oon hono no,o noddirta Alla , omo hula oon omo yida oon hono no,o yidirta Alla maa o hulirtadum noon.

ALLA-toowdo-wi:

اِنَّهُ مِنْ يُشْرِكِ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجِدَ النَّارُ

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿سورة المائدة، الآية: ٧٢﴾.

**[No wiide no fi worri oon cirkiidfo Alla hayiyya
Aljanna harmii dow mum hodforde makko wo yiite
faabotoofe ngalanaa toonyiibe].**

2} shirku pamaro diiwtoowo kibbal liimaanaaku,
duum le wo kala golle maa sabaabu jottinoowo feede
e shirku mawdo oon, yeru hunaragol gaaye ALLA e
ndagu newiidum e wadfirayi,ee [yiigaaku].

3} Shirku nyoobudo, kam woni ko sinndotoo e
anniyaaaji e peende,na,o waawi laataade mawdo maa
pamaro hono no banginiranoo ley tobbere[1,2].
fillaama yuude e MAHMUUDU BUN LUBAYD-ALLA
yarro e makko-:

عن محمود بن لبيد - رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أخوف ما
أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء) رواه أحمد.

**[no wiide Nulaadfo -mo juulde e kisndam tabiti dow
mum-wi,i:(ko burumfu hulde dowmon wo shirku
pamaro, fe mbi:dfume woni shirku pamaro yaa,an
Nulaadfo ALLA? o wi,i: yiingaaku[yiinaare].**

(2) KO WONI DEWAL[AL-IBAADAH]

dewal kam woni innde rendunde wonande kala ko
ALLA yidi eko yarrie kabbe e golleeji berde e golleeji
terde e kala ko na battina neddo feede e ALLA ley ko
golletee maa ko daletee.na naata ley innde dewal kala
ko ALLA wadi na jeyaa e SHARIYA nder dewtere
muudum ma ley SUNNA nulaadfo makko MUHAMMAD-
mo juulde e kisndam tabiti dow mum- dum le dewe
keewde, na woni e majje dewe bernde, ndagu
nyuule[tugaale] goondinal jeegom de e kulol e jikku e

tuugagol e njiingngu,e kulal e ko wanaa d̄um , na jeyaa e maggal faa hannden dewe puntude[baɲgude] ndagu juulde maa jakka maa koorka maa kijju.Dewal sellataa so wanaa nyiboo dow sardiiji d̄idi:

Go,o:labbiɲgol dewal wonande ALLA e rafi reentindem o, d̄um kam woni maana[firo] seedagol LAA,ILAAHA IL LALLAAHU. ALLA-toowdo- wi,i:

اَلاَ لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا۟ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰٓىۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىۤ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىۤ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ [سورة الزمر، الآية: ٣].

[Diina laabuka wo ALLA tan woodani been jogitiibe gaaya makko yibbe wobe wi,ooobe men ndewraybe huunde fu so wanaa faɓɓattinamen faade e ALLA ɓadal anndu Laamɗo hiitoto[nyaaaway] hakkunde mabbe ley d̄um ko ɓe luuri fi muudum anndu ALLA handataako oon laatiid̄o wo pewo keefeero].

ALLA-toowdo-wi'i:

اَ وَمَا اُمْرُوْا۟ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ... ﴿٥﴾ [سورة البينة، الآية: ٥].

[Be njamiraaka huunde fu so wanaa ɓe ndewa ALLA wo ɓe labbinambe,o Diina wo ɓe focciibe].

DIDABO,oon: jokkugol d̄um ko NULAADO-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- wardi, o wada hono ko Annabiijo wadi ngafeeti ɓeydaari maa d̄uytude, d̄um woni maana[firo] seedagol MUHAMMAD RASUULULLA AHI. Mo seney woodani wi,i:

ا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴿ [سورة آل عمران، الآية: ٣١].

**[Wi,u yaa MUHAMMAD so tawi on laateke ofon njidfi
ALLA fu njokkeekam ALLA yid'a,on yaafoo junuubaaji
[bakkatti]moodon].**

o wi:i katin:

ا ... وَمَا وَاوَاتِكُمْ الرَّسُوْلُ فَاخْذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمُّ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ... ﴿ [سورة
الحشر، الآية: ٧].

**[Dum ko Nulaadfo waddani,on nanngeedfum d'um ko,o
hadfi,on kaditee e majjum].**

ALLA-toowdo- wi:

ا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكِمُوْكَ فِىْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا
فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿ [سورة النساء،
الآية: ٦٥].

**[Mi hunoreke jooma be ngoondfintaa faa be kiitine
[ngadfe kiitotoofa] d'um ko jibi hakkunde mabbe de
tawee be kebataa ley berde mabbe fu billaare
wonande d'um ko kiitid'aa de be cilmanadum
silmugol]**

Dewal kibbungal laatataako sowanaa e kujje didi:

GO, O:njiɲngu[giggol kibbungu wonande ALLA,
jeyaado ardina njiɲngu ALLA e njiɲngu ko ALLA yidi
dow njiɲngu kala huunde fuf.

DIDABO: Leey inkinanagol ALLA : war na ,o laatoo

leey inkinaniido ALLA e wadugol jamiraadi makko e wodditagol kadaadi makko. Maccangaaku wonande ALLA woni ko reentini kibbal njiɲngu e kibbal leey inkinal e jikku e kulol, dɔm woni no maccungaaaku jeyaado goondirta wonande joomum e tagudodɔm . jeyaado ALLA na hewta njiɲngu ALLA e yarray mum batte daranagol makko dewal ALLA. Sabu ALLA na yidira jeyaadam ngam battaragol makko feede e ALLA dɔm ko farri[tilsini] dow makko e kulle parraade, kala nde jeyaado beydori naafiilaaji dewe fu o beydan battagol faade e ALLA-mawdo teddudo- daraja makko du toowa, de dɔm laatanoo,o najeyaa e sabaabuuji naatugol Aljanna ngam bural ALLA e hinne muudɔm. ALLA toowdo-o wi:ii:

اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٥]

[Noddee joomon noddiron,o leey inkinaare e cuncunka no wiide,o kaŋko o yidfaa yabbinoobe haddi].

{3} DALIILAAJI KOLLOOJI NGOOTUMMBAAKU ALLA
 Kujje e dalilaaji kollooje ngootummbaanku ALLA na keewi sanne kala oon miiliidode de golliri hay y illom fu anndal mum tabitan tenynyoral mum beydoroto teeldugol ALLA- sene woodani'o- e ngootummbaakum ley golleejim e indem e sifaajim e allanƙaakum, ALLA na teeldi nderdi piiji fuf.na jeyaa e di seedeeji e daliilaaji ko warata dɔm:

a)Manngu tagudi adunaaru ndu e nyoobal mbaadi mayru e heewgol nooneji tagaadi e njubbudi nyoobundi ndi, ndi yaata dow mum . oon y eewdo de golliri hay y illom tenynyoran ngootummbaaku ALLA. Oon miiliido tageede kammuuji e leydi e tageede naange e lewru , e tageede neddo e daaba e tageede bibbe ledde e ko yoori , oon taykiido dee kulle fu o anndan anndal tey oral nade njogii tagudo kibbudo inde e sifaaji e Allankaaku duum na holla wo kankeo tan woni kaandudo reweede.

ALLA -toowdo -wi,i:

ا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

﴿ [سورة الأنبياء، الآيات: ٣١-٣٣].

[Men ngafi ley leydi baamle [pelle] tabitinde fata leydi ndi dimmbodo e mabbe men ngafi ley baamle deen laabi jaajufi yaama be kan,dito feede e peende mabbe. Men ngafi kammu hono kumbudi suudu ndeenaandi e saamgol de kambe wo be duurtiibe taagumaysiije maggu Kankeo ALLA tagi jemma e nyalooma e naange duum fu na wonie falakumum na fubbaade {na yindo}].

o wi;ii:

ا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِ كُمَّانٍ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُوَنَّ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ ﴿ [سورة الروم، الآية: ٢٢].

[Na jeyaa e taagomaysiiji makko tagugol kammuuji e leydi e seertugol d'emlemon{haalaaajimon} e nooneejimon na woni leydfum Daliilaaji baawde Alla wonande joomiraaɓe anndal].

b}Duum ko ALLA nuliri Nulaaɓe e sariyaaji de,o walliriɓe taagumaysiijie daliilaaji kollooji ngootummbaaku makko e teeldugol makko e dewalduum ko,o wadi e SHARIYA wonande tageefo makko e kiiteeji na holla no wiide d'um fuf wo,e joomiyo ɗeenyudo anndudo ko tagi anndudo ko moy y'i e tagoore ndeen wo,e oon d'um y' uuri.

ا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴿ [سورة الحديد، الآية: ٢٥].

[Hakiika men nelii Nelaabe amen men neliriɓe aayaaje ɓangude mennjippini wondude e maɓɓe defte e jaadilal[sikeeli] faa yimɓe ndarononundal].

ALLA-toowdo- wi,i:

ا قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿ [سورة الإسراء، الآية: ٨٨].

[Wi,u yaa MUHAMMAD faysi yimɓe e ginnaaji ndeentidi faa ngad'a hono KUR,AAN ɓe mbaawataa faysi yoga maɓɓe laatani yoga ballo].

b} Tagu ngu ALLA tagi berde yimɓe d'owmum ndagu

y irrugol ngotummbaaku ALLA dum le wo fi tabitindo ley yonkiji yimbe sabu nde torra hewti neddo fu na wartu faade e ALLA. so tawii neddo hisiino jiiBalluji e tuuyi yonki baylitooji tagu fu tawataakeno ley Berndem huunde fu so wanaa deerduGol dow ngootummbaaku ALLA ley Allaŋkaaku makko e inde makko e sifaajje golleeji makko e goondingol Diina makko mo,o nuliri Nelaabe makko- juulde e kisndam tabiti dow mubben-ALLA- toowdo wi,i:

ا فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ * مُنْبِئِينَ
 إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ [سورة
 الروم، الآيتان: ٣٠ ، ٣١].

[Darnu yeesoma wonande Diina{labbinanan Alla Diina } wo,a poccidotagu[laabal] Alla ngu tagi yimbe dow muudum{dum woni Tawhiidu}mbattiigu walanaa tagu Alla{Diinam} dum Diina ndartiika kaa ko heewi e yimbe anndaa. Wo,on wartube faade e Alla de kulon,o de ndarnon[nyibton]juulde fati laatodfon e yimbe Shirku]

Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:
 (كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج
 البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ، ثم قرأ "فطرة الله التي فطر الناس
 عليها" رواه البخاري

[Kala ko rimaa fu rimdete e tagu lobbu {wootimbinde Alla} de saaraabem ngadadum yahuudiyanke maa

annasaaranke maa majuusiyanke hono no daaba rimirta daaba wo kibbunga noon on tawataa tay'ande fu e muudum.De,o janggi " Tagu ngu Alla tagi yimbe dow mum].

NYUYGAL DIDABAL

[GOONDINGOL MALAYKAABE]

Goondingol malayka,en woni: habbugol Alla najogii malayka,en o tagiibe e Annoora o tagiribe dow dewal makko be luttataa Alla ko yamiribe , ibe ngada ko be njamiraa ibe senna ALLA [ibe mbi,a subhaanallaahi] jemma e nyalooma be ndonkata. gooto fu anndaa limoore mabe so wanaa ALLA tan Alla fawii dow mabbe golleeji ceertudi. ALLA -toowdo-wi'i:

ا ... وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ١٧٧].

[Kaa moyyuki wo oon ngoondindfo ALLA e nyalaande wattande e Malaykaabe].

o wi,i katin:

ا ... كُلُّ ءَامِنٍ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٥].

[Kala e mabbe goondini Alla e malayka,en makko e dewte makko e nelaarabe makko men cenndataa gooto e nularabe makko].

Na woni ley Hadis JIBRIILU lolludo nde,o lamndinoo Nulaado Alla-mo juulde e kisndam tabiti dow mum-hodum woni liimaanaaku e lislam e Ihsaan[moy yuki].

Jibliiru wi,i[humpitam hodum won Iimaan[goondinal]
ANNABIJO-juulde e kisndam tabiti dowmum-wi,i:
[ngoondina Alla e Malaykaabe Alla e defte makko e
Nulaabe makko e nyalaande sakitotoonde de
ngoondina koddoruye moy y um mum e bondumum
fu.

*TEddeENGAL GOONDINGOL MALAYKAABE E KIITE
MAJJUM LEY DIINA:*

Goondingol Malayka,en kam woni nyuygal[rukunuwal]
didabal ley nyuyle goondinal jeegom de liimaanaaku
jeyaado sellataa jabataake gaaye mubben. Kala
alsilaami,en fu na kawri dow waajibagol goondingol
Malayka,en teddube. oon jan Kirkido woodeede
Malayka,en maa woodeede yoga mabbe be ALLA
haali haala mubbenkala jan Kirkidobe heefordi lutti
dewtere Alla e Sunna Nulaadom e kawralAlsilaami,en
ALLA-toowdo-wi:

ا ... وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [سورة النساء، الآية: ١٣٦].

**[Oon jan Kirkido[yeddufo] Alla e Malayka,en makko e
defte makko e Nulaabe makko e nyalaande wattannde
hakiika o majji majjere wofunde].**

NOY MALAYKAABE NGOONDINIRTEE:

Goondingol Malayka, en wo pecce didi:

Goondinal moftungal. e goondinal paccitaangal
goondinal moftungal ngal na reentini kulle sowre na
jeyaa e majje:

1) Dirrugol woodeede Malaykaabe anndugol wo be
tageefo jeyaango e tageefooji ALLA, ko tagiribe fa be
ndewadum, woodeede mabbe wowoodugol pa, iyol
rafi yigolmen be waray wiide[hollataa]rafi woodeede
mabbe, sabu na heewi kujje[paiji]tagaade cewde
gonde e Annaaru[Duniya] do tawi en nji, ataa dum en
dum hollataa deen kujje tagaaka. Annabiijo-ALLA juul
dow makko hinnoomo- yi, ii JIBRIILU e mbaakim pa, ihi
[no, o tagira]kile didi. Yoga e Sahaaba, en du yi, ii yoga
Malaykaabe na be nanndinkini e suuraji yimbe. Imaam
AHMADU filloke ley dewterem MUSNAD y uude e
ABDULLAAHI BUN MAS, UUD-Alla yarro e makko-wi, i:
{Nulaado Alla-mo juulde e kisndam tabiti dowmum-yi, ii
JIBRIILU e mbaakim na wondi e bippeele [gabitanji]
teemedede jeegom kala wippeewo wooto e majje fu na
uddi forngoo}. Tabitii e Hadis JIBRIILU lolludo mo Imaam
MUSLIMU fillii oon no wiide JIBRIILU- kisey woni dow
mum- wardi e alahaali Suura gorko cattudo rawnude
kaddule[conci] cattudo bawlude ngaasa[sukundu] tabe
jahaangal fu yi, ataake e makko gooto e Sahaaba en fu
anndaamo.

2) Teddingol Malayka, en e jippindebe nokkuuje
mabbe de ALLA jippiniribe , annda wobe jeyaabe
ALLA yamiraabe ALLA teddinibe de y emti alkadara

mabbe de battinibe. Na woni e mabbe neliraabe Waayu e tanaamum, be mbaawa huunde so wanaa ko Alla waawnibe, be njoganaaki ko, e mabbe nafaa e torra fu gaaye Alla. Ko dum wadi de dagataako rewrudefe huunde fu e dewal walaa ko haali haala sifaraadebe yoga e sifaaji Alla hono no Annasaara, en ngadi Malayka JIBRIILU -mo kisndam woni dow mum-nih. ALLA-toowdo- wi,ii:

ا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿سورة الأنبياء، الآيتان: ٢٦ ، ٢٧﴾.

[Be mbi Alla jogiteke bidfo Sene na woodani, o accu kaan wo be jeyaabe Alla teddinaabe be ardorataako, o kojngol kambe wo e yamiroore makko be ngollata].

o wi.i:

ا ... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴿سورة التحريم، الآية: ٦﴾.

[Be luttataa Alla ko yamiribe ibe ngolla ko be njamira].

O alkadara liimaanaaku na wajibi[tilsi] dow kala Alsilaami [juuldo]gorko e debbo fuf no anndadum na tilsu dow mabbe janngude dum e habbudedum [goondindedum], gooto e mabbe jabantaake geldol [nganto]majjudedum. Goondinal Malayka, en paccitaangal na reentini kulle sowre [fiyakuuji]na jeyaa e majje:

GO, O: LASLI TAGOORE MABBE:

ALLA tagi Malayka, en e Annoora hono no, o tagiri ginnaaji e yiite de, o tagi yimbe e loofal, tageede mabbe kambe Malayka, en na adi tageede AADAMA -mo kisndam woni dow mum- wari ley Hadis;

(خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم) رواه مسلم

[Malaykaabe wo, e Annoora taga, ginnaaji e leewngol yiite "yiite ndulbooye" taga, Aadama du tagiraama e ko cifanadon].

DIDABEL : LIMOORE MALAYKAABE :

Malayka, en wo tagoore nde Alla tan waawi hiisaade limoorem ngam heewngol mabbe, sabu wala dow kammu nokku key oowo kolli nay sanaa tawa Malayka na woni dowmum na sujidi maa na dari . Hono BAYTULMAMJURU [suudu wuurniraandu dewal] wonndu dow kammu njeddfabu na naata nder mayru nyannde fuf ujunaaj [buuluuje] capande jeddi Malayka, naatudu mabbe nde wootere fu for nyataako naata didaberdeno be poti heewde. Yiite du waddete nyannde darngal na wondi e ujunaaje capande jeddi sigiyol, kala sigiyol fu na wondi e ujunaaje capande jeddi Malayka na poodange.

ALLA-toowdo- wi, ii:

ا ... وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ... ﴿ [سورة المدثر، الآية: ٣١].

[Gooto fuf anndaa konu jooma sowana kamtan]

Warii nder Hadis Nulaado -mo juulde e kisndam tabiti
dowmum-wi,i:

(أطت السماء وحق أن تنط ، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد ورا كع)

**[kammu sawtinii na woodi gonga ko sawtini sabu kala
nokkuure to woodi ko koyngal yaaba dow kammu a
tawan Malayka na woni dowmum immaa cujidindfo
maa turiidfo naŋngi koppi].**

Annabiijo -Alla juul dow makko de hiinoo,o- o sifoke
Baytul maamuuru o wi,i:

(يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه) رواه البخاري ومسلم

**[Na naatandu nyannde fuf ujunaaje capandfe jed'fi
Malayka jaltudfo e mabbe fu naatataa katin].**

O wi,ii katin:

(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك).

رواه مسلم

**[Yiite jahannama waddee nyannde ndeen na wondi e
ujunaaje capandfe jed'fi sigiyol kala sigiyol fu na
wondi e ujunaaje capandfe jed'fi Malayka].**

Ndelle dum na holla,en keewal limoore Malayka,en
ndaaru be kaalden haalamubben be tan limoore
mabbe hewtii Miliyooji ujunaaje nay e teemedede jeenay
Malayka de ko mbiidaa heddiibe ben le sene woodanii
oon tagudobe de firritibe de moobi limoore mabbe.

TATABEL : IN DE MALAYKA,EN:

Na tilsi goondingol kala Malayka mo Alla inndani,en
inndem ley KUR,AAN maa mo Nelaado Alla-juulde e
kisndam tabiti dowmum-inndi inndem ley SUNNA e

Malayka,en .Burdo teddeengal e mabbe wo tato:
GO,ABO : e mabbe wo JIBRIILU na innitiree JIBRAA,IILU
kanke woni RUUHUL KUDSI[fittaandu laabundu]
jippodotoodo e wahyuuji laatiidi nguur ndam berde
dow Nulaabe-kisndam tabitin dow mabbe.

DIDABO MABBE : MIIKAA,IILU na innitiree MIIKAAL
kam woni doomnaado[fawaado] tobo kammu mo
nguurndam leydi woni emum.omo sogga tobo ngoon
faade to Alla yamiri.

TATABO MABBE : ISRAAFIILU kam woni bakkilaado
fuufude buutilal[wuttude ka alaandu] ngam humpitingol
timmooode ngurndam DUUNIYA e fudfugol nguurndam
LAAKARA dam nguurey terde[balli] woni e muudum.

NAYABEL : SIFAAJI MALAYKAABE:

Malayka,en wo tageefo goongawo na be njogii terde
goongaaje na be ciftoroo sifaaji ballankeeji e sifaaji
taguyankeeji na jeyaa e diin sifaaji:

1] Manngu tagu mabbe e buttidngol terde[tiidugol
balli[mabbe: Alla tagiibe dow mbaakiiji mawdi di
sembe potooji e golleeji mabbe mawdi di Alla
wakkilibe be ngolla dow kammu e nder leydi.

2] Na be njogii bippeele[gabitanji]: Alla taganii
Malayka,en bippeele diddidi tattati naynay na woodi
mo dimum buri noon ndagu JIBRIILU nde Annabiijo
-juulde e kisndam tabiti downmum-yiinoomo omo
wondi e bippeele teemedede jeegom na uddi fojngo .
ALLA-toowdo- wi,ii:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِحِ اَنْجِحَةَ
مَثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعًا يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ... ﴿ [سورة فاطر، الآية: ١].

[Yettoore na woodani oon tagufo kammuuji e leydi gadfo Malyka,enwo Nulaabe joomiraabe bippeeledfidfidi e tattati e naynay omo beyda leytagu ko,o muuyi].

3] Rafi haajeede mabbe nyaamee e njaram: ALLA - mo sene woodani tagii Malayka,en be kaajaka[be muuyataa] neema e njaram be ndewlata be ndimata [njibbintaa].

4] Malaykaabe wo hay y ilanteebe wo be joomiraabe berde be kaaldii e ALLA kam du haldi e mabbe, be kaaldii e AADAMAe ko wanaadum e Annabaabe.

5] Waawgol mabbe nanndinkinagol e mbaakiji ko wanaa mbaaki mabbe: ALLA hokkiibe baawde nanndinkinagol e worbe bibbe AADAMA , dum le na jeyaa e fennugol korngol been wi,oobe Malayka,en wo bibbe Alla rewbe. En mbaawataa anndude no be ngadata de ibe mbaylito feede e diin suuraaji tiidudi senndude hakkunde mabbe e bibbe AADAMA.

6] Maaygol(yawtugol) Malaykaabe: Malayka,en na maaya be fuf nyannde Laakara faa yottoo Malayka maayde[doomnaado maaynugol yimbe], de be ummintine fa be ngolla golleeji dibe ndoomnaa diin.

7] Dewal Malaykaabe:Na be ndewra Alla-mo sene woodani dewe keewde yeru juulde, Du,aaw, e sennugol, e wadugol ruku, e sujidingol, e kulol, e

njiɲngu[joortagol], e ko wanaa d̄um fu.

NA JEYA E SIFA DEWAL MABBE KO WARATA DUM:

- 1] Duumagol ley dewal e rafi ronkere
 - 2] Labbiɲgol dewal wonande Alla-mo sene woodani-
 - 3]Duumagol d̄owtanaade e d̄algol luttal ngam reeneed e mabbe e goofi e bakkatti.
 - 4] Leey inkinagol wonande Alla e heewgol dewal.
- ALLA-toowdo-wi,i:

ا يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٠].

[Ibe senna ALLA jemma e nyalooma be ndonkataa].

JOYABEL : GOLLEJI MALAYKAABE

Malayka,en na ngolla golleeji mawd̄i ,d̄i Alla jappibe [fawi] be ngolla na woni e mabbe:

- 1] Roondiiibe AL-ARSHI
- 2]Reennaado jippingol WAAYU dow Nulaabe
- 3] reenoowo ALJANNA e YIITE
- 4] Reennaabe[halfinaabe] Duule e Tobo e Fuɲngo.
- 5] Halfinaabe baamle[pelle].
- 6] Malayka kalfinaado fuufude buutilal.
- 7] Halfinaabe winndugol golleeji bibbe AADAMA.
- 8] Halfinaabe reenugol bibbe AADAMA, so tawii ALLA hoddori huunde be njoppadum ko hoddora d̄um yana dow makko.
- 9] Halfinaabe wondugol e neddo e noddudedum faade e moyyum golle.

10] Halfinaabe tobbere ley rennga debbo, e wattugol yonki neddo e winndugol arsike muudum e gollem e so tawii wo beldo hoore naa mettudo hoore.

11] Halfinaabe tamugol yonkiiji bibbe Aadama wawtu maayde.

12] Halfinaabe lamndagol yimbe ley kabruuje [caabeeje mabbe].e ko jokkata duum hono jukkungo [lette] maa neemagol.

13] Halfinaabe yottingol calmaali tomottaare Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dowmum- faade e muudum.Dum wadi de so Alsilaami na salmina dow Nulaado -mo juulde e kisndam tabiti dow mum-fu hewtay ko,o yaha faade e oon to lelii toon, na hey a,o [na yonamo o salmina dow oon to,o woni fuf , sabu Malaykaabe njottinan salminaango makko ngoon faade e oon ko'o yamiraatan juuraade Misiide[juulirde] makko ngam juulde.Na be njogii golleeji keewdi sanne ko faltii dum buri lollude e majji, na jeyaa e Daliilaaji duum konngol ALLAH-toowdo-:

اَلَّذِيْنَ يَجْمَلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ... ﴿ [سورة غافر، الآية: ٧].

[Been roondiibe Al-arshi e ko woni tatem ibe senna yettoore joomiibe ibe ngoondinadum ibe dabbana goondinbe yaafaamuye].

o wili:

اَقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ .. ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٩٧].

[Wi,ambe yaa,aan Muhammad may woni laatiifo wo ganyo Jibriilu jippinoowo Kur,aan dow bernde maa ley duŋey Alla].

o wi,i katin:

ا ... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوٓآ
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ... ﴿ [سورة الأنعام، الآية: ٩٣].

[So tawii afa yi,annoo wawtu nde toonyiibe ngoni ley caɗaye[e] [paɗɗe] maayde wawtu oon Malayka,en na mbeyyiti juude mubben faade e mabbe na mbi,abe njaltinee yonkiiji moodon].

HAKKEEJI MALAYKAABE DOW BIBBE AADAMA[YIMBE

1] Goondindebe.

2] Yidudebe e teddindebe e wowlugol bure mabbe.

3] Harmingol [yennugol]y ettaadebe e nakkisingolbe maa jaltijaltinde[jalkita]e mabbe.

4] Wodditagol kala ko Malayka,en mbanyi e ko be terrorotoo na be terroroo kala ko bii AADAMA terrorotoo.

FAYDAAJI GOONDINGOL MALAYKAABE

1] Hay iny ingol liimaanaaku sabo liimaanaaku [goondinal] sellataa ngafeeti goondindebe.

2] Anndugol maŋngu tagudoobe-mo sene woodani-e semmbem e laamum sabu maŋngu tagaado wo e maŋngu tagudo yuuri.

3] Beydagol liimaanaaku ley bernde Alsilaami nde,o anndi sifaaji mabbe e alhaaliji mabbe e golleeji

mabbe.

4] Hoolaare e dey y'ere wonande goondinbe wawtu nde ALLA tabintinirtabe Malayka,en.

5] Yidugol Malayka,en saabe ko be ngolli e dewe dow no hibbiri e dabbugol yaafaamuye wonande goondinbe.

6] Honnagol golleeji bondi e goofi.

7] Yettude ALLA-mo sene woodani- ngam hinnagol makko jeyaabe makko nde,o wattunoo been e Malaykaabe na ndeenabe na mbinnda golleeji mabbe e kala ko jeyaa e nafaore mabbe.

NYUYGAL TATABAL
[GOONDINGOL DEWTE]

Goondingol dewte ALLA jippinaade dow Nulaabe makko-juulde e kisndam woni dow mabbe- kam won nyuygal tatabal e nyuyle Goondinal{liimaanaaku}. hakiika ALLA-toowdo- neli nelaabe muudum o neliribe Aayaaje bangude o jippini dow mabbe defte ngam yurmeende makkowonande tageefo e kanday [peewal] mabbe faa mbelko, aaku mabbe goonda Aduna e Laakara fu, fa de laatonoope laawol ngol ibe njaha dowmum wode kiitotoode hakkunde yimbe ley ko be luuri e mum. ALLA-toowd wi:

ا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ﴿ [سورة الحديد، الآية: ٢٥].

[Hakiika men nelii Nelaabe amen men neliribe Aayaaje bangude mennjippini wondude e mabbe defte e peesirgal faa yimbe ndarono jadal[nuundal]].

O wi katin:

ا كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِىْمَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢١٣].

[Yimbe laatokeno wo tomottaare[mofte] wootere de ALLA neli Annabaabe seynoobe[weltinoobe] jeertinoobe o jippini wondude e mabbe defte e goonga fa'o hiito[nyaaowo] hakkunde yimbe dum ko be luuri e muudum].

(1)HAKIKA GOON DINAL DEWTE:

Goondingol defte won: Goondingol ALLA na jogi defte o jippiniide dow Nulaabe makko-juulde e kisndam woni dow mabbe- kanyje defte de wode haala ALLA goonga , wode annoora e kanday[peewal]ko de ngoni wo goonga e jaadilal na tilsi[waddi] jokkude de e golludedum ko de njamiri, gooto fu anndaa limoore majje so wanaa ALLA.

ALLA-toowdo- wi'i:

ا... وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٤].

[ALLA haaldi e MUUSA haaldugol]

o wi:

ا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ... ﴿ [سورة التوبة، الآية: ٦].

[so taweede gooto e sirkiibe d'abbi to maadfa hoolaare hoolnufum faa nana haala ALLA].

(2)KIITE[NYAAWOORE] GOONDINGOL DEWTE:

Na tilsi goondingol denneengal Defte de ALLA jippini dow Nulaabem-juulde e kisndam tabiti dow mabbe-ALLA-toowdo kam haalide hakiika,kanje wode jippinaade de nganaa tagaade kala oon jan[kirdode maa yan[kiri huunde e majje heefordi.

ALLA-toowdo- wi:

اَيَّتْأَيُّهَا الَّذِيْنَ فَوَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَلْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى
رَسُوْلِهِ وَاَلْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ وَاَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ [سورة النساء، الآية: ١٣٦].

[Yaa onon goondinbe ngoondinee ALLA e Nulaadom e dewtere nde o jippini dow oon nulaado e dewte de o jippinoo arande ,oon jeddufoALLA e Malaykaabe mum e deftemum e Nulaabem e nyalaande wattannde hakiika o majji majjere wofunde].

ALLA -toowdo-wi'i:

اِهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ [سورة
الأنعام، الآية: ١٥٥].

[Ndee deftere men njippiniinde wo nde barkinaande njokkeende de kulon yaama kinnedon].

(3)HAAJEEDE TAGEEFO DEWTE E SABAABU JIPPINEE DE MAJJE:

GO,O FUF: Faa deftere jippinaande dow Nulaado ndeen laatoo fomyorde[ruttorde] wonande tomottaare makko ,fa be ponyoo feede e mayre ngam anndugol DIINA mabbe.

DIDABEL NGEEL: Faa deftere jippinaande dow Nulaado ndeen laatoo wo kiitotoodo jaadildo wonande kala ko be luuri e mum.

TATABEL NGEEL:Faa ndeen dewtere jippinaande

ndeen laatoo na reena DIINA caggal maayde Nulaado no nokkuuje e wawtuuji mbodfunduriri fuf , hono noddaandu Annabiijo meeden MUHAMMAD-mo juulde e kisndam tabiti dowmum-.

NAYABEL NGEEL: Fa deen defte laatoo wo HUUJA ALLA dow tageefo makko , be mbaawataa lunndaade de e yaltude e majje. ALLA-toowdo- wi:

اَكَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢١٣].

[Yimbe laatekeno wo tomottaare wootere dow TAWHIID de be cirkii ndeen ALLA neli Annabaabe wo be seynoobe be jeertinoobe de o jippini hakkunde mabbe dewte e goonga faa be kiitoo hakkunde yimbe ley dum ko be luuri e mum].

(4)NO DEWTE NGOON DINIRTE:

Goondingol dewte ALLA wo ko rabbindina[mofta] e ko faccita[firrita]:

KO RABBINDINA DUUM: woni no ngoondinaa ALLA jippinii defte dow nelaabe makko-juulde e kisndam woni dow mabbe-.

KO FACCIATAA DUM: WONI ngoondinaa ko ALLA inni yoga e dewtem ley KUR,AAN tedduɗo , na woni ko annduden e majje hono KUR,AAN e TAWREETA e ZABUURA e LINJIIL e DEREEJI IBRAAHIMA e MUUSA , ngoondina ALLA na jogii ko wana dum tan defte godde o jippinide dow Annabaabe makko , gooto fu annduɗo

inde majje e limoore majjewalaa so wanaa jippindode - mo seney e toowndam woodani-. Dee defte fuf ngari fa ßangina kay iny ina gootindingol ALLA e teeldingol, o ley dewal e gollugol gollleeji lobbi e hadugol SHIRKU e bonnugol leydi , ndelle layli noddaandu Annabaabe wo gooto faysi be ceerti ley yoga dewe e kiite [nyaawooje]. Goondinal dewte woni ðirrugol jippineede ðe dow Nulaabe adiibe, goondingol KUR,AAN woni ðirritagol jippineede mayre e jokkude ko woni e mayre. ALLA-toowdo-wi:

اِوَامِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّواْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٥].

[Nulaafdo goondini ðum ko jippina dowmum yuude to joomiiko Muumini, en fu ngoondini ALLA e Malaykaab e muudum e dewte muudum e Nulaabe muudum].

Kaniko -toowdo- o wi katin:

اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ ... ﴿ [سورة
الأعراف، الآية: ٣].

[Njokkee ko jippina faade e moodon fati njokkee gaaya majjum taakalemme, en [weldimme]].

KUR,AAN na seediri e dewte adinoo ðe kujje sowre ko ßuri himmude e majje:

1) Wo nde kaayee fi wowliiru mayre e maana mayre fuf e ðum ko woni e mayre kujje tagu e anndal goonganteeje.

2) Kayre woni sakitiinde e dewte kammuŋkeeje , kayre timminira defte hono no nele timminiranoo e Annabaajomen tedduɗo MUHAMMAD-juulde e kisndam tabitin dow makko-.

3) ALLA reeniinde e wayliteede , ko luuri e dewte yabbinooɗe sabu kanyje kaa de mbaylitaama .

4) Wo nde goondinnde dewte gonnoode yeeso mayre wo nde jaaliinde de.

5) Wo nde mooytunde denneengal dewte adinooɗe. ALLA-toowɗo- wi:

اَمَّا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ ... ﴿سورة يوسف، الآية: ١١١﴾.

[Nde laataaki njanta pennaaka kaa wonde goondingol ko ardinoondee ɓangingol huunde fuf e kanday e hinney wonande yimɓe goondinɓe].

(5)JABUGOL KIBAARUUI DEWTE ADINOOɗE
Na,en anndi tey oral dum ko wari nder defte de e kabaaruui di ALLA waayini faade e Nulaabem-juulde e kisndam tabitin dow mabbe- wo goonga mo sikke walaa e muudum.Dum waraali hollude en njaban ko woni nder defte gonde hannden e juude joomiraabe dewte dum woni YAHUUDI,EN e ANNASAARA,EN sabo be mbaylitiide , de keddaki e lasliiji majje no ALLA jippinimooɗe dow Nulaabem-juulde e kisndam wonu dow mabbe- noon.Na jeyaa ko annduden teyoral wari ley defte deen ko ALLA humpiti ley dewterem: no wiide yoŋki njunbinki roondataako

junuuba wonki ngokki, walanaa neddanke sawanaa ko golli ,gollem du yi,ete , de rewta o barjeedum mbarjaari timmundi

ALLA-toowdo-wi:

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ ﴿ [سورة النجم، الآيات: ٣٦-٤١].

[Yalla o humpitaaka ko woni nder d'ereje MUUSA e IBRAAHIM jottindo{timmindo ko yamira} yonki fu roodataako junuuba yonki ngokki, walanaa nedfo du huunde fu so wanaa ko golli,golle makko du yi,ete de rewta o barjeedum barjaaji kibbundi].

o wi,i kadin:

أَبَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ ﴿ [سورة الأعلى، الآيات: ١٦-١٩].

[Odon burni nguurndam ADUNA laakara kam furi woodfude kam heddotoo dum na woni nder d'ereje arandeeje d'ereje IBRAAHIMA e MUUSA].

AMMAA KIITE MAJJE KANJE DEWTE DEEN:

Ko woni ley KUR,AAN na tilsa dow men ndewren d'uum ALLA,gaaye ko woni nder dewte adiidde deen , en ndaaran so tawi kowoni nder majje na luuri e ko woni e SHARIYA men fu en ngollirataa dum, wanaa wo dum fewre koy , wodum goonga wawtu majjum, kaanoon

tilsay dowmen ngollirendum sabu dum mooytiraama SHARIYA meeden ,so tawi ko woni nder majje na hawri e ko woni e SHARIYA meeden du wodum goonga SHARIYA meeden holli cellal majjum.

(6)GOONDINGOL DEWTE INNAADE LEY KUR'AAN E SUNNA:

1- KUR,AAN TEDDUDO:

kam wo haala ALLA ka,o jippini dow MUHAMMAD -juulde e kisndam tabitin dow makko- timmoode Nulaabe e Annabaabe nde laateke wo nde cakitte defte jippinaade, ALLA kam reeni nde e wayliteede o wadiinde wo nde mooytunde defte godde deen.ALLA -towdo- wi:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ [سورة الحجر، الآية: ٩].

[Men njippini micco(KUR,AAN)women reenoobe nde]

O wi,i katin:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴿٤٨﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٨].

[De men njippini faade e maafa deftere e goonga nde goondfinde ko woni yeeso mayre e dewte wo nde jaaliinde dum hiitara[nyaawir] hakkunde maabbe dum ko ALLA jippini].

2- TAWREETA:

Kam woni deftere nde ALLA jippini dow MUUSA

-kisndam tabitin dow mum- o wadinde kanday e annoora, Annabaabe biɓɓe ISRAAYIIL e moodibaabe muɓɓen na kiitooonde. TAWREETA bajibiido dowmen ngoondinendum oonle kam woni jippinaado dow MUUSA-kisndam tabitaniidum- wanaa gondo e juude Yahuudiyankooɓe hannden, o. ALLA-toowdo wi:

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا التَّيِّبُونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا
لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّنِيْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ... ﴿ [سورة
المائدة، الآية: ٤٤].

[Men njippini TAWREETA kanday e annoora na ngoni nder mayre Annabaabe ɓeen silmuɓe na kiitooonde wonande ɓeen laatiibe yahuudiyankooɓe e moodibaabe maɓɓe e fikihinkooɓe maɓɓe e dɗum ko ɓe ndeynaa e dewtere ALLA].

3- LINJIIL:

Kam wo deftere nde ALLA jippini dow IISA-kisndam tabiti dow mum- e goonga wo nde goondinde dewte kammunkeeje jippinanooɗe yeeso mayre. Injiil mo goondinal muudum wajibi[tilsi] oonle kam woni mo ALLA jippini dow IISA e layliiji muudum celluɗi , wanaa ɗe ANAAJIILUJE baylitaade gonde e juude Annasaarankooɓe haannden ɓe. ALLA-toowdo wi:

اَوْفَقَيْنَا عَلٰى فَاثِرِهِمْ بَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَفَاثِرِيْنَهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿ [سورة المائدة، الآية: ٤٦].

[Men njokkini e tabe [batteeji] maɓɓe IISA ɓii

MARYAMA wo,o goondindo d̄um ko woni yeeso makko e TAWREETA de men ndokki,o INJIIL kanday e annoora na woni nder muudum wo nde goondinnde ko woni yeeso mayre e TAWREETA wo nde kanday e waaju wonande hulbe].

Na jeyaa ley ko TAWREETA teentini seynugol [weltinirgol] neleede Annabijomen MUHAMMAD-mo juulde e kisndam tabiti dow mum-ALLA-toowdo- wi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ... ﴿ [سورة الأعراف، الآية: ١٥٧].

[‘Been jokkuɓe Nulaado Annabaajo wummanke [humambinneejo] mo be tawi haalam na winndaa to mabbe ley TAWREETA e Injiil omo yamirabe moyyere omo hadabe fankarde omo dattinanabe kulle beldɛ omo harmina dow mabbe kulle cobɛ omo roontabe teddeefi e tiid’allaaji gonnooɗi dow mabbe].

(4) ZABUURA:

Kam woni deftere nde ALLA jippini dow annabi DAWDA-kisndam tabitin dow makko-.

Zabuura mo goondinde d̄um wajibi oonle woni mo ALLA jippini dow DAWDA kisndam won dow makko-wanaa mo wayliteede golle Yahuudiyankooɓe yani e muudum,o ALLA-toowdo- wi:

ا ... وَوَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٣٦﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٣].

[Men kokki DAWDA ZABUURA].

(5) DEREEJI IBRAAHIMA E MUUSA:

DIIN ngoni di ALLA hokki IBRAAHIMA e MUUSA
-kisndam tabitin dow mabbe- kanji le wodi lalludi
huunde fu anndaaka e majji so wanaa ko haalam jergi
ley KUR,AAN e SUNNA ALLA-toowdo-wi:

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿١٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿١٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةً وَّرَزَّ أُخْرَىٰ ﴿١٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿١٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ
سَوْفَ يُرَىٰ ﴿١٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴿١٤١﴾ [سورة النجم، الآيات: ٣٦-
٤١].

**[Yalla o humpitaaka ko woni nder d'ereje MUUSA e
IBRAAHIM jottindo{timmindo ko yamira} yonki fu
roondataako junuuba yonki ngokki, walanaa nedfo
du huunde fu so wanaa ko golli, golle makko du yi,ete
de rewta o barjeedum barjaaji kibbundi].**

ALLA-toowdo-wi,i katin:

إِن تَزِرُ وَازِرَةٌ وَّرَزَّ أُخْرَىٰ ﴿١٣٨﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣٩﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي
الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٤٠﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٤١﴾ [سورة الأعلى،
الآيات: ١٦-١٩].

**[Odon burni nguurndam ADUNA laakara kam furi
woodfude kam heddotoo dum na woni nder d'ereje
arandeeje d'ereje IBRAAHIMA e MUUSA].**

NYUYGAL NAYABAL
[GOONDINGOL NULAABE]

(1)- Goondingol Nulaabe:

kam wo gootel e nyuyle LIIMAANAANKU de goondinal neddo goondataa sowanaa e muudum. Goondingol Nulaabe woni tenynyorde ALLA na jogi Nulaabe o subiiibe fabe njottina nele makko , kala jokkudobe handito , kala luttudobe bewa. Kam woni goondingol be njottini ko ALLA jippini dow mabbe yottingol bangungol , be njottini ndeenka , be tindini tomottaare , be kabi JIHAAD ngam ALLA no haani habireede be ndarni HUUJA ,be mbaylitaali be cuudaali fay huunde e kobe nulira en ngoondina kala mo ALLA inni e mo'o innaali fof, kala Nulaado fu na humpita kabaaru Nulaado garoow baawom , cakitiido e mabbe du fu na goondina yeesojom.

ALLA-toowdo- wi,i:

اقُولُوا وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ [سورة البقرة،
الآية: ١٣٦].

[Mbi,ee men ngoondfini ALLA e ko jippina feede e amen e ko jippina feed e IBRAAHIIM e ISMAYLA e ISHAAKA e YAAKUUBA e LASBAATI (6ib6be Yakuuba sappo e d'ifo){punti} e d'um ko MUUSA e IISA kokka e d'um ko Annabaabe kokka yuude to joomiibe men

**cenndataa hakkunde mabbe fay gooto women
silmambe,o].**

Oon pennudo Nulaado gooto e mabbe hakiika o fenni .
oon goondindo Nulaado,oon , Oon luttudo Nulaado,
hakiika o lutti,jamirdo Nulaado,on d'owtanee, ALLA
-toowdo- wi,i:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ ﴿١٥١﴾

[سورة النساء، الآيتان: ١٥٠ ، ١٥١].

**[Been heefordinbe ALLA e Nulaabem de na be muuya
senndude hakkunde ALLA e Nulaabem de nabe mbi,a
men ngoondini yoga men njan'kiri yoga de ibe njogito
laawol hakkunde d'uum kambe ngon heeferbe pa,i
men cegilani jukkungo [lette] hoynoowo wonande
heeferbe].**

(2)Hakiika Annabaaku:

Annabaaku kam woni ko hey i hakkunde tagudo e
tagaado ley yottingol shariya tagudo,oon faade e
tagaado, ALLA na hokka Annabaaku mo,o muuyi e
tageefo makko, na,o suboo e tageefo makko wonande
Annabaaku nguun mo,o muuyani , subagol walanaa
gooto fuf tanaa makko-seney na woodanimo-
ALLA-toowdo- wi,i:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ [سورة الحج، الآية: ٧٥].

[ALLA na suboo Nulaabe yuudee e Malayka,en e yimbe ALLA wo nanoowo ji,oowo].

Annabaaku wo hokkete wanaa faggitete , hebirtaake heewgol dewal warirtaa ngam muuyde Annabaajo ma dabbugol muudum kaanoon wo subagol yuude to ALLA-o mawni o teddi- ALLA-toowdo- wi,i:

... اللَّهُ يُجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ [سورة الشورى، الآية: ١٣].

[ALLA na subo faade e muudum mo,o muuyi , omo hando[feewna] faade e makko been ruttiibe].

(3)Neenyal[sabaabu] Nuleede Nulaabe:

Neenyal nuleede Nulaabe-kisndam tabiti dow maabbe-na tabitira e kulle garooje de :

GO'O:Yaltingol jeyaabe y'uude e rewgol jeyaabe faade e rewgol jom jeyaabe y'uude e maccungaaku rewgol tagaado faade e ndimaaku rewgol tagudo ALLA-toowdo- wi,i:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧].

[Men nelirayma huunde fuf so wanaa hinney wo nande tageefo].

DIDABEL: Anndingol sabaabu mo ALLA tagiri yimbe saabem , kamle woni dewal ALLA e gootindindedum duumle waawataa anndeede so wanaa y'uude e laawol Nulaabe be ALLA subi e tageefo de,o burnibe tageefo.

ALLA-toowdo- wi,i:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ... ﴿...﴾
[سورة النحل، الآية: ٣٦].

**[Hakiika men neli ley kala tomottaare fu Nulaadfo wi,a
be ndewee ALLA de mbod'fitodfon TAAGUUT(kala ko
rewetee gaaya ALLA)].**

TATABEL: Dar nirgol HUUJA dow tageefo nulgol
Nelaabe ALLA-toowdo- wi,i:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُطَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿...﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٥].

**[Nulaabe seynoobe e jeertinoobe fata laatano yimbe
hujja dow ALLA caggal Nulaabe ALLA laatoke teddufo
neenyudfo].**

NAYABEL: Banjingol yoga e kulle biirmiide de
hayy illooji yimbe mbaawataa faamudedum'en hono
inde ALLA e Sifaaji muudum e anndugol Malayka,en
e nyalaande saktotoonde e ko wanaa duum.

JOYABEL: Laatagol Nulaabe wo nyemmbeteebe
moy yube ALLA hibbiniribe taguuji lobbi[jikkuuji
moyyi] de'o reenibe e tuuyeeji e jibduuji .

ALLA-toowdo- wi,i:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَلْتَدَهُ... ﴿...﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٩٠].

**[Been woni be ALLA handi jokku kanday[peewal]
mabbe]**

○ wi,i katin:

اَلْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ... ﴿ [سورة الممتحنة، الآية: ٦].

[Hakiika laatoneke,on e mabbe nyemmbungo moyyungol].

JEEGABEL: Moy y ingol berde e labbindede e jeertindede e kala ko halkatade.

ALLA-toowdo- wi,i:

اَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَأَيَّتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ... ﴿ [سورة الجمعة، الآية: ٢].

[Kanjo neli ley wummanjoobe(be njanngay)nelaado omo jannga dow mabbe Aayaaje makko omo labbinabe omo jannginabe deftere e qeenyal(Sunna)].

ANNABIJO-mo juulde e kisndam tabiti downum- wi,i:

((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) {رواه أحمد والحاكم}.

[Miin mi nuliraakano fami hibbina taguuji lobbi].

(4)Golleeji Nulaabe-kisndam tabitin dow mabbe-:

Nulaabe na njogi golleeji tedduɗi na jeyaa e majji: a-Yottingol Diina ALLA e noddugol yimbe faade e dewal ALLA kamtan e bortagol rewde ko wanaa ALLA , kanjo-toowdo- o wi,i:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ [سورة الأحزاب، الآية: ٣٩].

[Been yottinoobe nele ALLA de na be kula,o be kolataa gooto fuf so wanaa ALLA heyi ALLA kayboowo].

b-Banngingol ko jippinaa e DIINA. ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾
[سورة النحل، الآية: ٤٤].

[Men tippini faade e maafa micco faa baŋginana yimbe ko jippinaa faade e muɓɓen yaama ɓe miijo].

ɓ-Hollugol tomottaare moy y'ere e jeertindeɓe e torra e seynirdeɓe mbarjaari e hulbinirdeɓe lebto.
[sannudeɓe] ALLĀ-toowɗo- wi,i:

ا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ... ﴿١٦٥﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٥].

[Nulaabe seynoobe jeertinoobe].

c-Moy y'inirgol yimbe nyemmbiŋgol lobbol ley koŋnguli e golleeji
d-Damugol SHARIYA ALLĀ hakkunde yimbe e gollude dūm.
ɗ-Seedagol Nulaabe dow tomottaaje muɓɓen nyannde laakara ɓe njottini yottingol baŋgungol.
ALLĀ-toowɗo- wi,i:

ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ [سورة النساء، الآية: ٤١].

[Noy so men ngaddi ceedotoofo yuude e kala tomottaare fu de men ngaddima wo,a seede dow ɓe].

(5)Alsilaamaaku wo DIINA denneengal Annabaabe:

Alsilaamaaku kam woni DIINA denneengal Nulaabe.

ALLĀ-toowɗo- wi,i:

ا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٩﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٩].

[Diina to ALLA wo Alsilaamaaku].

ƒe fuf wo feede e dewal ALLA kam e yoppugol rewde tanaa makko tanƒe noddata faysi Diinaaji maƒƒe ceerti e kiiteeji sabu ƒe fuf na ƒe kawri dow lasli gooto kam woni TAWHIID.ANNABIJO-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((الأنبياء اخوة لعلات)) [رواه البخاري].

[Annabaabe wo sakiraabe(musifƒe)ƒe kawtaali neene (yaaye)gooto].

(6)Nulaabe wo ƒiƒƒe Aadama ƒe Anndaa ko wiirni (gaybi) :

Anndal gaybu wo e kulle keertoriide ALLA wanaa sifa Annabaabe sabu woƒe yimƒe na ƒe nga,i hono tanaa maƒƒe e tageefo iƒe nyaama iƒe njara iƒe ndewla iƒe daanoo iƒe nyawa[nawna]iƒe ndonka.

ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ... ﴿ [سورة الفرقان، الآية: ٢٠].

[Men nelay yeesoma Nulaabe fuf so wanaa na ƒe nyaama neema na ƒe njaha ley luumooji].

○ wi,i katin:

ا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿ [سورة الرعد، الآية: ٣٨]

[Hakiika men neli yeesoma Nulaabe men ngadƒaniƒe deekiraabe (sonnaabe)e koreeji(ƒiƒƒe)].

Na hebaƒe ko hebi yimƒe hono cunu maa seyo

[weltaare] maa tampiri maa yooltere[softere], ko ALLA suboriibe wo fa be njottina DIINA muudum , be anndaa Gaybu so wanaa haddi ko ALLA yellintiniibe e muudum Kanjo-toowdo o wi,i:

اَعْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٦٧﴾ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ مَن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٦٨﴾ [سورة الجن، الآيتان ٢٦ ، ٢٧].

[Anndufo Gaybu o funtinantaa Gaybu oon faygooto so wanaa mo,o yardi(subi) e Nulaabe makko omo nanna yeeso makko e faawo makko tommbiibe].

(7)Reeneede Nulaabe:

ALLA-sene woodanidum- subeneke nelalmum e yottindengal burbe fuwoodude e tageefom e burbe been hibbude tagu e sifa, ndeen o reenibe e mawdum e goofi de ,o hiinibe kala Ayiibe fa be njottina nelal ALLA faade e tomottaaje mabbe,ndelle kambe wobe reenaabe e goofiley kobe kumpitata yuude to ALLA -sene e toowndam woodaniidum- ley yottingol nele mabbe dumle tomottaare nde fu na hawri dowmum. ALLA-toowdo- wi,i:

اَيَّايُهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿٦٧﴾ [سورة المائدة، الآية: ٦٧]

[Yaa,aan Nulaafo yottin ko jippinaa feede e maafa yuude to jooma so,a wafay noon a yottinay nelal muudum ALLA na reene e yimbe].

Kanjo-toowdo- o wi,i katin:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ... ﴿سورة
الأحزاب، الآية: ٣٩﴾.

**[Been yottinoobe nele ALLA nabe kula,o be kulataa
gooto fuf sowanaALLA].**

O wi,i katin:

الَّذِينَ قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴿سورة الجن، الآية: ٢٨﴾.

**[Fa,o annda hakiika be njottini nele joomiibe omo
fiilti e ko woni to mabbe de omo moobi limoore
huunde fu].**

So tawi y uuri e gooto e mabbe goofi pamari di
cinndaaki e yottingol nelal fu be kumpitetedum , so be
kumpitaama dum be tuuban faade e ALLA law de be
ndutto faade e muudum de dum wa,a hono dum
laataakino , de be kebira saabe majjum nokku burdo
nokku mabbe arandeejo'oon toowde to ALLA, sabo
ALLA heertoreke Annabaabe muudum-juulem e
hennem na woodanibe- kibbal taguuji(jikkuuji e sifaaji
lobbi(moyyi)de'o labbinibe e kala ko jippintabe e
Alkadara mabbe e nokku mabbe

*(8)Limooore Annabaabe e Nulaabe e burdo teddeengal
hakkunde mabbe:*

Tabiti no wiide limoore Nulaabe -juulde e kisndam
woni dow mabbe- teemedede tato e sappo e yowoode
[dekoode] duum ngam korngol Nulaado-mo juulde e
kisndam tabiti downum-nde,o lamndanoo limoore

nulaabe:

((ثلاثمائة وخمسة عشرة جمعا غفيرا)) [رواه الحاكم].

(Teemedede tato e sappo e njoyo limoore yonunde).

Annabaabe le limoore muɓben na ɓuri noon , na woni e mabbe ɓe ALLA fillanii, en haalamuɓben ley deftere muudum , na woni e mabbe mo ALLA fillanaaki, en haalam. ALLA inni ley dewterem *noogay e njoyo* e mabbe Annabaajo e Nulaado. Kaŋko-toowdo- o wi,i:

ا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ... ﴿

[سورة النساء، الآية: ١٦٤].

[E Nulaabe hakiika men pilleke filla muɓben dow maadfa arande e Nulaabe men pillaaki filla muɓben dow maadfa].

Kaŋko-toowdo o wi,i kadin:

ا وَتِلْكَ حُطَّتْنَا وَاتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ وَكَذٰلِكَ نَظَرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰى الْعٰلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ [سورة الأنعام، الآيات: ٨٣-٨٧].

[Dum wo Hujja amen men kokkii, o IBRAAHIM dow yimbe muudum miden yebta darjaaji momen muuyi , jooma wo njeenyudo toowdo men kokkii, o ISHAAKA

e YAAKUUB ɓee fu , men kandokeɓe(fewniibe) NUUHU du men kandokedum yeesodum , na jeyaa e koreeji makko DAWDA e SULEYMAAN e AYYUUBA e YUUSUFA e MUUSA e HAARUUNA hono nih men njobirata moyyube e JAKARIYA e YAHYA e IISA e ILYAASA ɓee fuf na njeya e moyyube e ISMAYLA e ILYASA e YUUNUS e LUUTU ɓee fu men burniibe dow tageefo e baabiraabe e koreeji mabbe e sakiraabe mabbe men cubokebe men kandokebe feede e laawol poocciingol] Hakiika ALLA burnii teddeengal yoga Annabaabe dow yoga ALLA-toowdo- wi,i:

ا... وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ... ﴿ [سورة الإسراء، الآية: ٥٥].

[Hakiika men burni yoga Annabaabe dow yoga].

O burni yoga Nulaabe du dow yoga kanjko-toowdo- o wi,i:

ا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٣].

[Be Nulaabe men burni yoga mabbe dow yoga].

burbe be fu teddeengal wo kam,en ngoni joomiraabe pellital kambele ngoni NUUHU e IBRAAHIIMA e MUUSA e IISA e Annabiijo meeden MUHAMMAD -kisndam tabiti dow mabbe-ALLA-toowdo- wi,i:

ا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ... ﴿ [سورة الأحقاف، الآية: ٣٥].

[Munyu hono no joomiraabe pellital jeyaaɓe e Nulaabe munyiri nih].

Kanjko-toowdo- o wi,i kadin:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
 ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٧].

**[Micca wawtu men naŋnguno yuude to Annabaabe
 Aadimuɓɓen e maadfa e NUUHU e IBRAAHIMA e MUUSA
 e IISA bi MARYAMA men naŋngi yuude e mabbe Aadi
 teenudfo].**

MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow mum- kam
 ɓuri Nulaabe fu teddengal wo kaŋko woni timmoode
 Annabaabe Almaami hulbe ,hooreejo ɓiɓɓe AADAMA
 Almaami Annabaabe fuf so ɓe kawriti kadfiibu[kaaldo]
 mabbe so ɓe njaaliri , kaŋko woni jom darorde
 yettaande nde arandeeɓe e sakitiibe fu kirata,o dow
 muudum,jom deesewal yettoore e weendu juureteend
 u , kaŋko woni curonoowo(tefanoowo)tageefooji
 nyannde darngal, jom wasiila[laawol] e teddeengal
 (ɓural), ALLA nului,o nuliri,o ɓurdum moyyude e
 shariyaaji Diinam , nde tomottaare kam ɓuri tomottaaje
 jaltinanaade yimbe ɓe fuf ALLA hawrunduraniimo
 kaŋko e tomottaare makko teddeele e moy yukiiji
 gadde,o omo seerti e wonnoobe yeeso makko.
 tomottaare makko woni ko sakiti tomottaaje tageede
 kam artoto ummineede ummital.

Kaŋko-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((فضلت على الأنبياء بست)) [رواه مسلم].

[Mi ɓurniraama Annabaabe kulle jeegom].

Kaŋko-mo juulde e kisndam tabiti dowmum- wi,i katin:

((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وببيدي لواء الحمد ولا فخر . و ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة)). [رواه أحمد و الترمذي]

[Miin woni hooreejo biɓɓe Aadama nyannde darngal Deesewal yettoore e juŋgo,am woni wanaa mantaare kala Annabaajo fuf AADAMA e ko wanaafum fu wo ley deesewal,am wonata].

Jokkoowo Nulaad'omen MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow mum- e ɓural ley mabbe wo IBRAAHIIMA -kisndam wonu dow mum- gidɔ ALLA , ndelle Waayiraabe(yibbe) ALLA dido ɓe kam,en ɓuri joomiraabe jaajinɓinal(pellital) fu teddeengal de jokka tato caggal mabbe.

(9)Kaayeeɓiji Annabaabe - kisndam tibiti dow mabbe - ALLA semmbiniri Nulaabem Aayaaje mawde [taagumaysiiɓi] e kaayeeɓiji kaayniidɔ fadum laatoo hujja maa haaju hono KUR,AAN e feccagol lewru, waylagol sawru mboddi, e tagugol foonda e loofal e ko wana dum. Ndelle Muujiza[kaayeeɓi] ɓurɔ hay y illo wo Daliilu Annabaaku goondungu , woodɔ Karaama [teddengal]wo Daliilu goongantaaku ceediido Annabaaku goondungu. ALLA-toowɔ- wi,i:

اَلْقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... ﴿سورة الحديد، الآية: ٢٥﴾.

[Hakiika men neliri Nulaabe amen Aayaaje ɓangude].
Annabiijo-mo juulde e kisndam tabtiti dowmum- wi,i:

((ما من نبي من الأنبياء إلا و قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة))
[متفق عليه].

[Walaa fu Annabaajo e Annabaabe so wanaa tawee o hokkaama Aayaaje no tageefo goond'firta ,Miinle ko kokkaami d'uum wo wahyu ni midfo yelo laataade burfoobe jokkuibe nyannde Darngal].

(10) Goond'ingol Annabaaku MUHAMMAD-mo juulde e kisndam tabiti dowmum:

Goond'ingol Annabaaku makko wo layli mawdo e layliiji Liimaan[goond'inal], goond'inal tabitataa ngafeeti muudum, ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ [سورة
الفتح، الآية: ١٣].

[Mo goond'inay ALLA e Nulaadom men cegilanii (hbulani) heeferbe yiite duppoowe].

Annabiijo-juulde e kisndam woni dowmum- wi,i:

((أمرت عن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) رواه
مسلم

[Mi yamiraama mi haba e yimbe faa be ceedo laamiidfo dewreteefo goonga walaa so wanaa ALLA woodfi miin du womi Nulaadfo ALLA].

Goond'ingol Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dowmum-hibbataa sawanaa e kujje garooje de:

GO,O fuf Anndude Annabiijomen MUHAMMAD-juulde e kisndam

tabiti dow makko-Kanjole woni MUHAMMAD bii

ABDULLAH bii ABDU MUTTALIB bii HASHIM ,
 HAASHIM wo e KHURAYSHI jeyaa, KURAYSHI e
 Aaraɓbe jeyaa , Aaraɓbe na jeyaa e koreeji ISMAAYLA
 bii IBRAAHIIMA gidɔ ALLA -juulde e kisndam woni
 dow mabbe be fuf- na, o jogii duubi capande jeegom e
 tati(63), capande nay(40) yeeso no'o nulee noogay e
 tati(23)wo'o Annabaajo nulaado.

DIDABUM: Goondindemo ko, o humpiti, e dɔwtanaade
 mo ley ko, o yamiri e wodditagol ko, o hadi o gufi , fati
 ALLA du rewree so wanaa ko wadi wo e shariya.

TATABUM: Tenynyorde wo, o nulaado feede e yimbe e
 ginnaaji yaajantaa gooto fuf so wanaa dɔwtanaademo
 ALLA-toowdo- wi,i:

اقْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ... ﴿ [سورة الأعراف،
 الآية: ١٥٨].

**[Wi,u yaa onon yimbe miin womi Nulaado faade e mo
 n on fuf].**

NAYABUM: Goondingol neleede makko e laatagol
 makko kanjo buri Annabaabe kanjo woni timmoode
 mabbe ALLA-toowdo-wi,i:

ا... وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ... ﴿ [سورة الأحزاب، الآية: ٤٠].

**[Kaanoon wo, o Nulaado ALLA e timmoode
 annabaabe]**

wo, o waaye [gidɔ] ALLA , hooreejo bibbe AADAMA ,
 kanjo won jom curanal (tefoore) manngal keertoraado
 WASIILA laatiido na buri darja fu manngu ley ALJANNA
 kanjo woni jom weendu juureteendu tomottaare
 makko na buri tomottaaje fuf teddeengal.

ALLA-toowdo- wi,i:

اَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ... ﴿ [سورة آل عمران، الآية: ١١٠].

[On laatoke tomottaare burnde tomottaaje jaltinanaafe yimbe].

Kambe buri yimbe ALJANNA fu heewde, Nuleede makko mooyti denneengal nele paltinooḍe (feyyunoode) deen fuf.

JOYABUM: Alla semmbinirii, o burdum fu maḅngu e kaayeeffiji e burdum fu baḅgude e taagumaysiiji , ḍumle won KUR,AAN mawḍo , haala ALLA ndeenaaka e wayliteede ALLA-toowdo- wi:

اقُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْأَطْنُ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿ [سورة الإسراء، الآية: ٨٨].

[Wi,u faysi yimbe e ginnaaji ndeenti faa ngadda hono o KUR,AAN be ngaddataa faysi tawi yoga maḅbe laatani yoga ballo].

ALLA-toowdo- wi,i kadin:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ [سورة الحجر، الآية: ٩].

[Minen njippini micco{KUR,AAN}women reenoobe ḍum].

JEEGABUM: Goondingol Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dowmum-yottini nelal , o hokki hoolaare o tindini [laabani reedu]tomottaare ,moy y ere fu walaa nde o hollay been de o yidiniḅe nde. torra du fu walaa mo,o hadaali been de,o hulḅiniḅe e muuḍum.

ALLA-toowdo- wi,i:

اَلْقَدْ جَاؤَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ [سورة التوبة، الآية: ١٢٨]

**[Hakiika Nulaad'o waranii,on jeyaad'o e moodfon mo
 ko tampinta,on teddi e muudum kimmud'o e moodfon
 keewfo yurmaade keewfo hinnaade muumini,en].**

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما
 يعلمه لهم ويحذر أمته من شر ما يعلمه لهم)) ز رواه مسلم.

**[Laataaki Annabaajo mo ALLA nulunoo e ley
 tomottaare yeeso,am so wanaa tawee na fawi dow
 makko no,o holla yimbe kala moyyere nde o
 anndanibe de,o jeertinabe e torra ko,o anndi].**

JEDDABUM: Yidugol Annabiijo-juulde e kisndam woni
 downum e ardingol njiɲngu makko dow njiɲngu yonki
 [hoorem] e denneengal tageefo e teddinde,o e
 mawninde,o e yaagaade,o e d'wotanaade,o d'um won
 hakkeeki makko di ALLA tilsini[farri]ley deftere
 muudum wonande,o kanke Annabiijo-juulde e kisndam
 tabiti downmuudm , sabunjiɲngu makko na jeyaa e
 njiɲngu ALLA d'wotanaade,o du na jeyaa e d'wotanaade
 ALLA.

ALLA-toowdo- wi,i:

اَقْلٍ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّكُمْ اَللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٣١].

**[Wi,u so taweede on laateke ofon njid'i ALLA fu
 d'owtaneekam (njokkeekam)ALLA yid'an,on yaafoo**

[junuubaaji moodon ALLA wo jaafotoofo kinnotoofo].

Annabiijo-juulde e kisndam woni dowmum- kamdu wi,i
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده و الناس أجمعين)) [متفق عليه].

[Nedfo moodon fu goondfinal muudfum hibbataa faa mi laato miin buri yidfeede to muudfum gaaye biyum e bammum e yimbe fuf].

JEETABUM: Juulde e salminde dow makko kanjo Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dowmum- e hebbinde duum , sabu bakiilu[nguddo]kam woni mo,o miccaa yeesom de juulaali dow makko .
ALLA-toowdo- wi,i:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٥٦].

[Anndu no wiide e Malaykaabe muudfum na njuula dow Annabiijo yaa onon goondinbe njuulee dow makko de calminon salmingol].

Nulaado-juulde e kisndam tabiti dowmum- wi,i:
(من صلى واحدة صلى الله عليه بها عشرا)) رواه مسلم.

[Oon juuludfo dow am kilal gootal ALLA juulan dow mum kile sappo].

Juulde dow makko na tenynyore[na tilsa]e nokkuuje na jeyaa e majje wawtu tayyagol ley juulde[wawtu jarngugol Ashadu]e jarngugolKUNUUT e , juulde Maaydo , e wadugol kutba JUMA e caggal noddinaali , e wawtu naatude juulirde[MISIIDE]e yaltude e

muudum e wawtu wadugol DU,AAw, e wawtu micceed e[inndeede innde makkokaŋko Annabiijo -juulde e kisndam tabitin dow makko- e ko wanaa de nokkuuje.

JEENABUM: Anndude no wiide Annabiijo e denneengal Annabaabe heddiibe be fuf wobe wuurbe to nokku joomiibe nguurndam BARJAK burdam hibbude e toowde e nguurndam sahindinaabe[waraabe ley wolde JIHAAD],kaa dam wanaa hono nguurndam mabbe Adunaaru,wodam nguurndam dam en anndaa mbaaki majjam dam ittataa e mabbe innde maayde , Annabiijo-juulde e kisndam woni dow mum wi:

((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) . رواه أبو داود و النسائي

[ALLA harmini dow Leydi no nyaama terde Annabaabe o wi'i katin:

((ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي كي أرد عليه السلام)) رواه أبو داود.

[Wanaa kala Alsilaami mona salmina dow,am sa wanaaALLA wartira yonki,am fami wirfita salminaango makko].

SAPPOBEL: Na jeyaa e yaagaademo [teddingol]rafi yebtugol sawtu(hito)to makko nde,o wuurno e wawtu salmingol dow makko to kabru makko.

ALLA-toowdo wi,i:

اِتَّأَيُّهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَطَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾
[سورة الحجرات، الآية: ٢].

[Yaa,onon goondinbe fati bante sawtuuji moodon dow sawtu Annabiijo fati banjinanee,o koŋngol hono no yoga moodon banjiniranta yoga nih ngam taa golleeji moodon njana tawee on paamaali].

Ndelle teddengal makko caggal moobeede makko hono Alhorma makko nyalaade nguurndam makko noon , na tilsidow men yaagaade,o(teddindemo) -juulde e kisndam tibiti dow makko- hono yimbe arandeebe ngadunoo noon-ALLA yarro e mabbe- , wawtu be laatinoo na be buri yimbe fuf sattude kawral wo nande Nulaado e woddude e luural makko e funtinde ko heydi e DIINA ALLA.

SAPPO E GO,ABEL: Yidugol SAHABA,EN makko e dunkee,en suudu makko(joomiraabe suudu makko) e deekiraabe[suddiibe]makko e rewordinde e mabbe be fuf e reentagol weefaadebe maa yennudebe maa gacciraadebe huunde , sabu ALLA yarreke e mabbe de'o suboriibe ngam jaadal mabbe e Annabiijom -juulde e kisndam tabiti dowmum- de o wajinbini [tilsini]dow tomottaare nde yidudebe.

ALLA-toowdo- wi,i:

اَوَّالَسَّيْقُوتِ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاطِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَنِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ... ﴿ [سورة التوبة، الآية: ١٠٠].

[E ardinoobe arandeebe jeyaabe e ferube e taakanbe e jokkubeebe njokkiribe moyyuki ALLA yarroke e mabbe be njarri e muudum]

Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dow mum wi:

((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) رواه البخاري

[Fati njennee sahaabaabe ,am mi hunoreke mo yonli am woni e juɗngom faysi gootomon hokkitiri kaɗke ko foti e waamnde[fello]UHUD maɗngu hewtataa muddi godfo mabbe maa feccerem].

Ana yidaa oon gardo caggal mabbe dabbandebe yaafaamuye e rookagol ALLA ta wada konnaagu mabbe e ley bernde neddo.

ALLA-toowdo- wi,i;

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ [سورة الحشر، الآية: ١٠].

[Been warbe caggal mabbe na be mbi,a yaa jooma,a men yaafa sakiraabe amen ardoriibemen goondinal fati wafu ley berde,amen konnaagu wonande been goondinbe].

SAPPO E DIDABEL: Wodditagol biltinal[yewgol]e makko -juulde e kisndam na ngoni dow makko- sabo duum torram na satti dow makko sanne kaɗnko o hadiinodum tomottaare makko dum woni wiltingol kaddi e yettude,o(mantudemo) e jippindemo nokku makko mo ALLA jonnimo ko jeyaa e ko ALLA heertori e muudum, kaɗko ANNABIIJO -juulde e kisndam tabiti dow makko- o wi,i:

((إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي))

[Miin womi maccufo(jeyaafu)mbi,ee maccufo ALLA enulaafom mi yid'aa burnonkam to kaafum].

((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) رواه البخاري.

[Ta,on burneekam kaddi,am hono no Nasaarankooɓe burniri IISA kaddim nih].

ndelle dagataako noddude,o maa d'abbude mballa to makko e wanngagol e saabeere makko[kabruure] maa fodanaademo maa hirsandemo d'um fuf yo SHIRKU o hadii wad'ande goddo fuf dewal ko wanaa ALLA . hono nih liddi ko haalaa d'um rafi yaagaademo e teddindem o maa d'uytugol alkada makko maa jaltijaltidemo d'uum fuf na limtee e yartugol e Alsilaamaaku e luttugol ALLA. ALLA-toowdo- wi,i:

ا... قُلْ اَبَا لِلّٰهِ وَاَوَايَتِهٖ وَّرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٦﴾ لَا تَعْتَدِرُوْا قَدَّ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ... ﴿٦٧﴾ [سورة التوبة، الآية: ٦٦ ، ٦٧]

[Wi,anbe ndelle ALLA e aayyaajem e nulaafom lebtotodfon , fati ngeldinee on keefordi caggal goond'inal moodfon].

Njiɗngu ngoond'ungu wonande nulaafu kam woni njiɗngu cabinbinoowu nyemmbude kanday makko e jokkude sunna makko e dalde[yoppude]kala laawol luttungol laawol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko- ALLA-toowdo- wi,i:

اَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٣١].

[Wi,anbe so tawi on laateke na,on njid'i ALLA fu

njokkeekam ALLA yid'an,on de yaafoo junuubaaji mood'on ALLA wo keewfo yaafaade keewfo hinne].

Na wajibi rafi wiltingol(feyyintingol) haddi ley teddinde Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- fati o siforo oon sifaaji ALLA , fati o d'uyta oone daraja muudum du ndagu rafi teddinde oon e yidudedum njiingu laatortoongu jokkudemo ley ko,o yamiri e yahugol dow kanday oon e nyemmbudedum.

SAPPO E TATABUM: Goodingol Annabiijo sellataa so wanaa wondude e goondindemo e gollude ko,o wardi dum le kam woni d'owntanaademo-juulde e kisndam tabiti dow makko- d'owntanaademo wo d'owntanaade ALLA , luttudemo wo luttude ALLA , ndelle goondinde mo na tabitira hay in yinde goongantaaku makko e jokkudemo-juulde e kisndam tabiti dow makko-.

NYUYGAL JOYABAL

[GOONDINGOL NYALAANDE SAKITOTOONDE]

(1) *Goondingol nyalaande sakitotoonde [wattannde]:*

kam woni tey y orde hantagol nguurndam Duuniya e warugol caggal duum faade suudu wonndu[laakara] fuddirooru maayde de jokka nguurndam BARJAK de rewta ummagol darngal de jokka duum ummital de moobital de jokka mbarjaari faade e naatugol yimbe maa Aljanna maa yiite.goondingol Nyalaande wattannde wo gootel e nyuyle goondinal de LIIMAANAaku neddo hibbataa gaayam kala oon jan Kirkido(yeddudo) dum heefordi sabo ALLA-toowdo-wi,i:

ا ... وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ١٧٧].

[Kaa moy y uki wo,oon goondifo ALLA e nyalaande sakitotoonde].ANNABIJO-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i ley HADIS JIBRIIL:

((فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله و اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) [رواه مسلم ١/١٥٧].

[Humpitam hodnum woni Liimaanaaku? o wi,i: no ngoondinaa ALLA e Malaykaabe muudum e deftem e nulaabem e nyalaande sakitotoonde ngoondinaa koddoruye moy y um muudum e bondum].

Na jeyaa e ko wajibi goondinee kulle[paiji]ardotoodi nyalaande sakitotoonde[tagumaysiiji badal ndeen nyalaande] ko Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- humpiti . Joomiraabe annde pecci diin taagumaysiiji pecce didi :

a-Taagumaysiiji pamari(tokoosi): diinle ngoni kollooji badal nyalaande ndeen kanyji nadi keewi sanne ko heewi majji ngadi paltoke fayisi wanaa ko falti e majji buri heewde. Na woni e majji: neleede ANNABIJO -juulde e kisndam tabiti dow muudum e lallugol hoolaare,e nyaaynugol[parugol] juulirde e mantoraade dume toownugol duroobe nyibdi , e habugol e Yahuudiyankooobe e wardebee badundurngol jamaanu e duytagol golle , banngugol fitanuuji , e heewgol barundurel , heewgol njeenu e fuusuuji. ALLA-toowdo- wi,i:

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١٠٠﴾ [سورة القمر، الآية: ١].

[Nyande darngal badoke de lewru fecci].

b- Taagumaysiiji Mawdi: Diin woni garooji badagol nyalaande darngal de fuddugol mum jeertinee diin Taagumaysiiji wo sappo gootel majji fu funtaali tafon na jeyaa e majji :Yaltugol MAHDI e yaltugol DAJJAAL , e jippagol IISA-mo kiasndam tabiti dow mum- yuude e kammu wo kiitotoodo jaadildo, de,o hela SALIIB o wara DAJJAAL e ngiroowu[kose]de o wartira JIZYA [sagalle]o hiitoroo SHARIYA alsilaamaaku,ndeen YAAJUJU e MAAJUJU njalta de IISA du,oo dow maabb e de be maaya de jokka duum nanngede naange kile tati gere funnaange[lettugal] e faro gorgal [mutirde]e faro JAZIIRA AARABBE, e cuurki mawki njaltoohi e kammu na udda yimbe huubabe , e banteede KUR,AAN yuude e leydi faade e kammu , e fudirgol naange faro gorgal(hirnaange) e yaltugol daaba , e

yaltugol yiite maɲngefaro ADAN na sogga yimbe faade e leydi SHAAM d̄um lewoni Taagumaysi cakitotooɗo e majji . IMAAM MUSLIM filloke y uude e HUZAYFA b̄ii USAYDI ALGIFAARI -ALLA yarro e makko- o wi,i:

روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه-: اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم- ونحن نتذاكر فقال: ((ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر :الدخان و الدجال والذابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم و يأجوج و ثلاثة خسوف:خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)) [رواه مسلم].

[Annabiijo-mo juulde e kisndam tabiti dow mum yelliti de wi,i: d̄ume miccotod̄on? be mbi,i: mid̄en micco nyannde darngal? o wi,i: darmgal darataako faa nji,on Aayaaje[taagumaysiiji] sappo de,o limti: cuurki , e DAJJAALI , e daaba , e fud̄rugol naange gorgal e jippagol IISA b̄ii MARYAMA , e yaajuuju , e naɲngeede naange kile tati:naɲngeedenge faro lettugal e gorgal e faro JAZIIRA AARA'B̄BE e ko sakitotoo e majjum yiite yaltoowe faro YAMAN na riiwa(rad̄o) yimbe faade e moɓtere muɓben].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((يخرج في آخر أمي المهدي يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباتها ، ويعطي المال صحاحا

وتكثر المشية ، وتعظم الأمة ، يعيش سبعا ، أو ثمانية ، يعني حججا)) [رواه

الحاكم في المستدرک]

[MAHDI yaltan e cakitte tomottaare ALLA na tobnira yuwoonde saabe makko , de leydi yaltina funngo muudum de ,o hokkira jawdi sanne de kulle(daabaaji) keewa de tomottaare semmbina o wuuran duubi jedfi maa jeetati].

Jergoki dii Taagumaysiiji wo jokkundurooji hono jokkundurgol gaale e fonnditagol muɓɓem nde gootel majji funti fuf goɗngel jokka , nde dii taagumaysiiji njawti[palti] fuf darngal daro e duje ALLÀ-toowdo-.Ko wari faandeede e SAA,A[darngal] : nyalaande nde yimbe njaltata e kaburuuje[caabeeje] muɓben e yamiroore joomiibe faa hasbabe de neemina moyyudo mabbe jukko bondo mabbe ALLÀ-toowdo- wi,i:

اَيُّوْمٍ يُخْرَجُوْنَ مِنْ اَلْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلَى نَصْبٍ يُوفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ [سورة المعارج، الآية: ٤٣]

[Nyannde nde ɓe njaltata caabeeje mabbe henyo henyo a waaw wiide wo ɓe henyo toobe faade e deesewal].

ndee nyalaande inniraama inde sowre ley KUR,AAN na woni e majje: Nyannde darngal, toy y otoonde, nyannde hasboore nyannde mbarjaari , masiiba mawdo[juhoore], yanoore goondunde , nyannde wullaandu sukkooru nande[nyannde hito darngal]. maa wotoonde , dum fuf wo inde mayre e ko wanaa dum fu. *Nyannde darngal:* ALLÀ-toowdo- wi,i:

اَلَا اَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ [سورة القيامة، الآية: ١].

[Mi hunoreke nyannde darngal].

Toy y otoonde: ALLÀ-toowdo- wi,i:

اَلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ ﴿سورة القارعة، الآيتان: ١، ٢﴾.

[Toy'otoonde ko anndinimaa toy'otoonde].

Nyannde hasboore: ALLA-toowdo- wi,i:

ا... اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
اَلْحِسَابِ ﴿١٦﴾ ﴿سورة ص، الآية: ٢٦﴾.

**[Been lalloobe e laawol ALLA jukkungo sattungo na
woodaniibe saabe ko ibe njeggiti nyannde hasboore].**

Nyannde mbarjaari: ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَاِنَّ الْفُطْرَانَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿٤﴾ يَّصَلُّوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥﴾ ﴿سورة الانفطار،
الآيتان: ١٣ ، ١٤﴾.

**[Wallaahi yimbe bombe du na ngoni ley yiite ibe
naatange nyannde mbarjaari].**

Juhoore[masiiba mawdo]: ALLA-toowdo- wi,i:

ا فَاِذَا جَاوَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ﴿١٦﴾ ﴿سورة النازعات، الآية: ٣٤﴾.

[So tawii masiiba mawdo wari].

Yanoore: ALLA-toowdo- wi,i:

ا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ ﴿سورة الواقعة، الآية: ١﴾.

**[So tawii nyalaande yanoore yanii(so darngal daroke)
].**

Goondunde: ALLA-toowdo- wi,i:

ا الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ ﴿سورة الحاقة، الآيتان: ١، ٢﴾.

[Goondunde(nyannde goonga funtata) ko anndinimaa goondunde].

Nyannde wullaandu sukkooru nande:

فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاحَّةُ ﴿٣٣﴾ [سورة عبس، الآية: ٣٣].

[So taweede nyannde wullandu sukkooru nande wari].

Maawotoonde: ALLA-toowdo- wi,i:

اهل أهلك حديث العشيّة ﴿١﴾ [سورة الغاشية، الآية: ١].

[Yalla haala nyalaande maawotoonde(nyannde darngal)waraniima nah?].

(2)Sifa Goondinal nyannde laakara:

Goondingol nyannde laakaara wo ko rabbindinaa

[mofta] e ko faccitaa

ko rabbindinaa duum woni : ngoondinen woodeede nyalaande nde ALLA hawrundurta yimbe ley muudum adiiɓe e sakitiibe de o barjo mona fuf kaddi gollem wobbe naata Aljanna wobbe naata yiite [jaayngol].

ALLA-toowdo- wi,i:

اقْلِبْ اِلَى الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ ﴿٥٠﴾ لَمْ طَمَعُوْنَ اِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥١﴾ [سورة الواقعة، الآيتان: ٤٩، ٥٠].

[Wi,u yaa,aan MUHAMMAD no wiide arandeeɓe e sakitiibe fuf wo reentinteeɓe faade e wawtu nyalaande anndaande].

ko faccitaa duum woni: Goondingol kabaaruuji

paccitaadi wonande ko laatotoo caggal maayde na

jeyaa e duum kulle[piiji]garooje de:

(GO,O): FTTINA SAABEERE: kam woni lamndagol Malayka, en maaydo caggal moobeedem (surreede makko) homo woni joomum dume woni Diinam e Annabaajom MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow mum- de ALLA tabintina been goondibe o tabintinirabe kojngol tabitngol hono no jergori e HADIS nde, o lamndaa fu o wi, a:

(ربي الله و ديني الإسلام و نبيي محمد - صلى الله عليه وسلم-) [متفق عليه].

[ALLA won joomam Islaam won Diina, am MUHAMMAD juulde e kisndam tabiti dow mum kam woni Annabaajo, am].

Na wajibi goondinde kala ko HADIISAAJI kolli e muudum ndagu lamndagol Malaykaabe dido, mbaaki duum, e ko Muumini jaabotoo, e dum ko, Munaafiki du jaabotoo.

(DIDI): JUKKUNGO ALKABURUURE E NEEMA MUUDU:

Na tilsi [fawi] goondingol jukkungo kaburu [lebte ley saabeere] e neema muudum, kam so wanaa ngayka njeyaaka e gayde yiite fu wo weendu e beeli Aljanna, neddo goondina kaburuure kam woni jipporde arandeere e jipporde Laakara, oon kisudo e muudum fu ko warata caggal duum burata newanaadedum. oon mo hisay jukkeede ley kaburu muudum ko warata caggal duum burata sattandemo. Kala oon maaydo fu darngal muudum dareke Neema e jukkungo na njana dow yonki e tergal fu ley saabeere. nde gomma du wonki tan teeldidata e muudum, jukkungo ALLA na woodana toonyiibe hono no neema makko

woodaniri Muumini, en goondube noon. Maaydo na jukke ley BARJAK maa na neemine , fotu nde, o moobaa e nde o moobaaka fu , faysi tawi wo, o wula(sunna) maa o yooli maa kulle ladde nyaami, o maa pooli, dum hadataamo jukkeede tilay jukkungo maa neema heban, o .ALLA-toowdo- wi,i:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ [سورة غافر، الآية: ٤٦].

[Yiite na be mbulireenge fajiri e kiikiife(wawtu fuf) njannde darngal daroto nannee koreeji FIR,AWNA burdum sattude e jukkungo].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)) [رواه مسلم]

[So wanaano ngam hulgol fati ufundurora fu mi rookotono ALLA faa nanon jukkungo kaburu].

(TATI): FUUFEEDE BUUTILAL[Alaandu]:

Buutilal kam woni luwal ngal Malayka bi, eteedo ISRAAFIIL-kisndam tabitin dow mum- fuufatadum so, o fuufi fuufannde go, aberde denneengal tageefo maaya so wanaa ko ALLA muuyi , de, o fuufa didaberde denneengal tageefo gilla tageede Duniya faa nyannde darngal iirto[ummito].

ALLA-toowdo- wi,i:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ [سورة الزمر، الآية: ٦٨].

[Buutilal fuufe de kala ko woni ley kammuuli e leydi maaya so wanaako ALLA muuyi rewti ngal fuufe didaiberde be fuf be ummo ibe kedii(habbi)].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi,i:

((ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم يترل الله مطرا كأنه ظل فتنتبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)) [رواه مسلم].

[Rewta Buutilal fuufee kala nandogal fu hettinoro senngo daande yepta senngo wonngo ngoon ndeen yimbe fuf maaya de jippina tobo[yuwoonde]na nanndi hono pinndi ndeen terde yimbe pud'a e majjum de fuufande wonde fuufe katin yimbe fuf ummo na kedii].

(NAY): UMMITAL: Kam woni wuurnugol ALLA maaybe wawtu nde Buutilal fuufaa fuufande didaiberde ndeen yimbe ummoto wonande jom tageefooji , so ALLA dujeneke fuufede Buutilal e yecceede(ruttagol) yonkijji feede e terde mubben ndeen ummo e ley caabeeje na njaha wo henyiibe feede e darorde be boldube koyde be temminiibe(be bornaaki) be taadaaki[kaddaaki], be njogaaki faa,e darngal ngaal juuta , naange badoobe nguli magge beydee , olowere (lakkere)hewta faa kundude mabbe ngam tiidalla darnde ndeen won e mabbe mo olowerem hewtata kolbulem goddo hewtan dum koppi , goddo olowere m[lakkere] hewtadum kente , won faahannden mo olowerem hewtadum endi , goddo hewtadum balaaje goddo olowerem suumata hunndukom

suumugol , mona fuf haddi gollem. Ummitagol wo goonga tabitindo mo SHARIYA e maatalla(so'ugol) e hayyillo fuf kolli tabitalmuudum:

Ammaa SHARIYA: na heewi Aayaaje ley dewtere ALLA e HADIISAAJI celludi nder SUNNA nulaado ALLA -juulde e kisndam tabiti dowa mum- kolludi tabitingol Ummital , ALLA-toowdo- wi,i:

ا ... قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ... ﴿ [سورة التغابن، الآية: ٧].

[Wi,u yaa,aan MUHAMMAD mi hunoreke joomam warma na on ummintinee].

kanjko-toowdo- o wi,i kadin:

ا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ... ﴿ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤].

[Hono no men puɗfirnoo,on tagoore arandeere noon nih men ngartirta,on].

e konngol Nulaado-juulde e kisndam tabiti dowa mum-:

((ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم يترل الله مطرا كأنه طل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)) [رواه مسلم].

[Rewta Buutilal fuufee kala nandogal fu hettinoro senngo daande yepta senngo wonngo ngoon ndeen yimbe fuf maaya de ALLA jippina tobo[y uwoonde]na nanndi hono baade ndeen terde yimbe puɗa e majjum de fuufande wonde fuufe katin yimbe fuf ummo na kedi].

e konngol ALLA-toowdo-:

ا... قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ [سورة يس، الآيتان: ٧٨ ، ٧٩].

[O wi,i:may wuurtinta yi,e de wofe berraadfe wi,u wuurtinande oon tagunoodofde kilal arandewal kanjo kala tagu omo anndi].

Ammaa MAATALLA:ALLA holli jeyaabem wuurnugol maybe nder Duniya gaha na woni ley simoore nagge [sorte bakara]nokkuuje joy ko hollataduun kanje le ngoni: yimbe MUUSA be ALLA wurni caggal maaynu debe , e baraado koreeji ISRAYL e yimbe yaltube gure mubben ngam hulgol maayde , e oon belliido takkol deende[wuro], e foonda IBRAAHIIMA-kisndam tabiti downum-.

Ammaa HAYYILLO:kamdu holliri tabitingol ummital kulle didi:

a) ALLA-toowdo- kam woni tagudo kammuuji e leydi, e ko woni nder majji , o tagiidum gilla fuddoode , baawdo tagude tageefo fuddoode huɗngataako wuurnudedum so muuyi.

b) Leydi laatoto mbaatundi njoor ndi nguurndam walaa e mum de ALLA jippina tobo dow mayri nden ndi waylitoo ndi laatoo hudohecco mbuurndi tawee ley mayri kala noone nanndude, ndelle baawdo wuurnude ndi caggal waatugol mayri sikke walaa yalla na waawi wuurnugol maaybe.

(JOY): MOBTAL E HASBOORE[LAMNDE] E MBARJAAR I:

Na en ngoondina mobteede terde e lamndeede e darneede peesirgal hakkunde majje , e barjeede tageefo dow gollleeji muɓben, ALLA-toowdo- wi,i:

ا... وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٨﴾ [سورة الكهف، الآية: ٤٨].

[Men moobtibe men d'alay fay gooto e mabbe].

O wi,i kadin:

ا فَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ﴿١٩﴾ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنْنِي مُلْتَقٍ حِسَابِيَةَ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ [سورة الحاقة، الآيات: ١٩-٢١].

[Ammaa oon kokkiraafɔ defetrem e juɗngom nyaamo wi,a nanjgee njanjgee dewtere,am miin mi laatokeno midɔ tenynyornoo hasboore'am ndelle kaŋko omo woni nder nguurndam njarriniid'am].

ALLA-toowdo- wi,i katin:

ا وَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لِمَ اُوتِ كِتَابِيَةَ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ اَدْر مَا حِسَابِيَةَ ﴿٢٦﴾ [سورة الحاقة، الآيات: ٢٥ ، ٢٦].

[Amma oon kokkiraafɔ dewterem juɗngom nano wi,a hay tawenoo mi hokkaakano dewtere,am mi anndaano hasboore,am].

Mobtal kanyum woni soggeede yimbe e reentindebe faade e darorde ngam hasbudebe , ko senndidum kam e ummital wo Ummital kanyum wo wartirgol wonkijji faade e terde , amma mobtal kanyum wo soggugol be e ummintinaabe e reentindebe faade e darorde..

Hasboore e Mbarjaari: kanyum woni darnugol ALLA

-toowdo- jeyaabem yeeso makko de o anndintinabe golleeji mabbe di be ngollunoo , Muumini, en hulbe hasboore mabbe na laatoro holludebe golleeji mabbe fa be annda dokkal ALLA wonandebe e suurudedi e mabbe nder Duuniya e yaafagol mabbe e majji ,na be mobte mona fuf haddi goondinalmum, Malayka, en njabbito be na ceynirabe Aljanna , na koolnabe e kulal e nde nyalaande sattunde , ndeen geese mabbe ndawna de laato nyannde nden wode jalbooje jalooje ce yiide. Ammaa fennube duurtiibe na kaybe hasboore sattunde [tiidunde] sewnde dow kala pamarel e manngel , be poodiree geese mabbe nyannde darngal ngam hoynugol wonandebe mbarjaari kobe ngollunoo e kobe laatinoo ibe penna. Arande fuf e hasbeede nyannde darngal Annabaajo meeden MUHAMMAD -juulde e kisndam tabiti dow mum- wondude e makko ujunaaje [buuluuje] capande jeedidi been na naata Aljanna ngafeeti hasbeede e jukkeede ngam hibbugol gootinbinal mabbe , kam be ngonni be Annabiiji-juulde e kisndam tabiti dowmum- sifori konngol mum:

((لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون و على رهم يتوكلون))

[Be d'abbataa moccaneede , be cumataa ko, emabbe be mbod'ataako dow joomiibe tan be mbakilta].

Na woni e mabbe Sahaabaŋke teddodo UKASHA bun MUHSIN-ALLA yarro e muudum-. Ko jeyaado artotoo lamndeede fi muudum e hakkeeji ALLA-toowdo-fuf wo juulde, ko o adotoo lamndeede e muudum ley kiitehakkunde yimbe wo y'iiye [yonkiiji].

(JEEGOM) WEENDU ANNABIIJO:

Na ,en ngoondini weendu Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- kanyumle woni weendu mawndu e juurdude teddunde , na foode yuude e njaram Aljanna e gooruwol[caangol] ALKAWSARA e nyannde darngal na Muumini,en e tomottaare MUHAMMAD-juulde e kisndam na woni dow mum- na njuurandu.

Na jeyaa e SIFAAJI MAYRU: Na ndu kosam rawnude , na ndu buri saawandere feewde , na ndu buri njuumndi welde, na ndu buri MISKU uurde , na ndu yaaji sanne , njaayri mayru e njuuteefi mayru fuf wo potu , kala senjo wooto e mayru na wada kaddi jahaangal lewru , na woni e mayru sorooje didi codiide e Aljanna kore mayru na buri koode kammu heewde , kala oon jarudo e mayru domdataa caggal duum abada. Annabiijo mo juulde e kisndam tabiti dow mum-wi,i:

((حوضي مسيرة شهر ، ماءه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منه لا يظماً أبدا)) [رواه البخاري].

[Weendu,am manngum na foti e yaadu lewru , ndiyam mayru na buri kosam rawnude , henndu mayru na buri MISKU uurde, kore mayru hono koode kammu hewde oon jarfo e mayru domdataa abada].

(JEDDI): CURANAL TEFOORE(TEFOORE) :

Nde balaw[jarrabuye]Satti e yimbe ley dargal manngal de wonugol mabbe doon juuta be piloto suraneede to joomiibe e hiinudebe e sadayeeji darorde e tiidallaaji muudum ndeen ULUL-AZMI,EN[joomiraabe jaajinbinal

] jeyaabe e nulaabe ngeldora fadum yottoo timmoode Nulaabe Annabijomen MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow mum- mo ALLA yaafi ko falti e ko sakiti e goofim , ndden o daroo darannde nde arandeebe e sakitiibe fu njettirata,o saabem, de nokku makko teddufo e Daraja makkotoowdo punta , o sujida nder ALARSHI de ALLA hollamo jette o yettiradum o teddiniradum e majje , ndeen o dabba to ALLA duḡay de duḡonoo,o curanal wonande tageefo fa ALLA hiitoo hakkunde jeyaabe caggal cunu e di tiidallaaji di be mbaawanaa kewtudibe. Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow mum- wi:

((إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فينما هم كذلك ، استغاثوا بآدم ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد- صلى الله عليه وسلم - فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب ، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم)) [رواه البخاري].

[Naange badoto nyannde darngal faa olowere hewta feccere nowru be kerataa e noon faa be dabba mballa to AADAMA de rewta IBRAAHIIMA e MUUSA e IISA de jokka MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow makko e mabbe- ndeen o suranabe fa hiitee hakkunde tageefo de'o yaha faa o naḡnga fiildude damal nyannde nden ALLA darna,o dowdarorde yettiniinde yetta,o e mayre kala yimbe deental ngaal].

Ngal Curanal kanyum woni curanal maḡngal ngal ALLA heertorii Nulaado-mo juulde e kisndam tabiti dow mum- Tabitaniimo kadin curane godde deen ngoni:

1- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande dunkee, en Aljanna faa dujaneebe e naatugol Aljanna oon Daliildumle konngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-:

((آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح ، فيقول الخازن من أنت؟ قال فأقول محمد ، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) [رواه مسلم].

[Mi wara damal Aljanna nyannde darngal mi d'abba udditaneede ndeen doomoowo [aynoowo] oon wi,a: Aan may? mi wi,a: Miin MUHAMMAD o wi,a: Aan njamiraami tami udditana gooto fuf yeesomaa].

2- Curanal makko -juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande yimbe be lobbi mubben poti e bondi mubben o suranabe fa be nannee Aljanna , yoga e joomiraabe annde wi,i ngol konngol kaanoon ngol walaa Daliilu celludo y uude e Annabijjo-juulde e kisndam tabiti dow makko- maa e ko wanaadum.

3- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande yimbe be naatugol yiite tabiti dow mubben fati naatange daliiluduumle huubugol konngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-:

((شفاعتي لأهل الكبائر من أمي)) [رواه أبو داود].

[Curanal am yo joomiraabe junuubaaji mawfi jeyaabe e tomottaare'am woodani].

4- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande dunkee, en Aljanna faa ALLA beyda darajaaji mabbe nder Aljanna. dum Daliilu muudum konngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-:

((اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين)) [رواه مسلم].

[Yaa,aan ALLA yaafa ABI SALAMAH de yeptaa daraja makko ley hanndaabe].

5- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande yoga e yimbe naata Aljanna ngafeeti lamndeede maa jukkeede Daliilu dum HADIS UKASHA BUN MUHSIN ley ujunaaje capande njeddo naatoobe Aljanna ngafeeti lamndeede e jukkeede de ANNBIIJO -juulde e kisndam tabiti dow makko- du,a niimo [toraniimo] e koṅngolmum:

((اللهم اجعله منهم)) [متفق عليه].

[ALLA wadumo e mabbe].

6- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-wonande joomiraabe mawdi e tomottaare makko been naatube yiite faa be njaltinee e magge. Daliilu dum koṅngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-

((شفاعتي لأهل الكبائر من أمي)) [رواه أبو داود].

[Curanal am yo joomiraabe mawfi etomottaare,am woodani].

e koṅngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-:

((يخرج قوم من النار بشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين)) [رواه البخاري].

[Woodan yimbe yaltube e yiite ngam curanal MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow makko-na be innitiree JAHANNAMAṆKOOBE].

7- Curanal makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-ngam hoynaneede[yolnaneede]jukkungo wonande been haandube jukkeede hono curanal wonande bappaanyo[bappa]makko ABUTAALIB. Daliilu ngal

curanal koŋngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko-:

(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه) [متفق عليه].

[Yaama curanal,am nafamo nyannde darngal de,o watee ley pamarum e yiite na hewta kolbule makko heddo ngaandi makko na fata].

Curanal sellataa nokku ALLA faa hibba e muudum sardiiji didi:

a}Yarraamuye ALLA wonande curoowo e curanteedo.

b} Duɗanagol ALLA curonoowo oon wo suru.

ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَىٰ... ﴿ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٨].

[Be curantaa so wanaa oon mo,o yarrani].

Kaŋko-toowdo- o wi,i katin:

ا...مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٥].

[May won oon mona sura tomakko sowanaa dujey makko].

(JEETATI): PEESORGAL:[ETIRDE GOLLEEJI]

Peesorgal wo goonga wajibiido goondine kam woni ko

ALLA darnata nyannde darngal faa peeso golleeji

jeyaabe , de o barjoobe e golleeji mabbe , wodum

peesorgal terdeŋkeyal na ngal jogi newe didi e

demngal , golleeji yimbe na peesore e maggal maa

dereeji[kaydiiji]

maa jom golle duum na waawi taweede kam peesete kaanoon ko habbi hoore wo teddefi e koyfeeki na laatoo e golle [golle kam teddinta ngal]wanaa jom golle oon wanaa derewol peesaangol ngol.

ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾ [سورة
الأنبياء، الآية: ٤٧].

**[Mid'en mballina peesord'e jaadilal nyannde darngal
yonki fuf toonyataake fay huunde haysi gollemakko
laati yeru wabbere serembe famfude men ngaddan
dum hey iimen e hasboobe].**

kanjo-toowdo- o wi,i kadin:

ا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ
﴿٩﴾ [سورة الأعراف، الآيتان: ٨ ، ٩].

**[Etugol jaadilngol wonande gollleeji wo laatotoodum
nyannde ndeen oon mo peesord'em teddi been ngoni
hebuɓe oon mo peesord'em koyfiti been ngoni fuuruɓe
ko,e mubben ngam ko ɓe laatino e Aayaaje amen ɓe
njanjirannoo].**

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi,i

((الطهور شرط الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان)) [رواه مسلم].

**[Laabal wo feccere goondinal yettude ALLA na
hebbina peesorgal{etirgal}].**

e koɗngol makko-juulde e kisndam tabiti dow makko- :

((يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات و الأرض لو سعت)) [رواه الحاكم].

[Etirgal wallinete nyannde darngal , de faysi kammuuji e leydi peesaa e maggal key'an].

(JEENAY): SIRAADI:

Eden ngoondina SIRAADI ,kanyum woni yangal[po] darnaado dow JAHANNAMA wo rewirde hulbiniinde , yimbe na ndewa dow muudum faade e Aljanna , na woni e mabbe paltortoodo dow majjum hono tamyaango yitere , goddo hono may y ere , goddo hono henndu ,goddo hono foonda , goddo hano lobbi e pucci goddo hono doggudu koyngal , goddo na rewa doon henyoo , cakitiido e rewoobe doon oon mona foodee poodaali , ndelle be fuf be ndewan doon mona fuf kaddi gollem faa wona e mabbe mo na falto de tawee Annoora muudum hono honndum wordu nih won e mabbe mona doofe de faddee nder yiite , kala oon yabbiido SIRAADI naatan Aljanna. Arande fuf mona taya[lummba] SIRAADI wo Annabaajo meeden tedduo MUHAMMAD-juulde e kisndam tabiti dow makko- de jokka tomottaaremakko , neddo fuf haalataa nyannde ndeen so wanaaNulaabe tan , noddaali nulaabe nyannde ndeen :Yaa ALLA hisin hisinu , na woni nderJAHANNAMA nyannde ndeen jammuuje dow forngoo SIRAADI neddo fuf anndaa limoore majje so wanaa ALLA-mawdo tedduo-nade ndippita mo

ALLA muuyi e jeyaabem. Na jeyaa e SIFAAJI SIRAADI: na buri labi welde na buri leembol sewde, wo taatoojum, kongal tabitataa e mum no foti taatude so wanaa oon mo ALLA tabintini wo darnaadum ley nimre Hoolaare e Endam na nelee de ngara ndaroo dow tatteeji SIRAAD faa ceedo dow oon deenunoodo dum, en maa jeebinoododum, en.

ALLA-toowdo- wi,i:

اِنَّ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاَرِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٢﴾ ثُمَّ نُنْزِلُ الَّذِيْنَ
 اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٣﴾ [سورة مريم، الايتان: ٧١، ٧٢].

[Walaa gooto e moodon fu so wanaa juuraynge dum laatoke dow jooma huunde hiitaande tilsunde de rewta men kisina been hulbe men d'ala toonyiibe ley magge wo be hofiibe].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi,i:

((ويضرب الصراط بين ظهراي جهنم فأكون أنا وأمي أول من يجيزه)) [رواه مسلم].

[De SIRAADI darnee dow JAHANNAMA mi laato miin e tomottare,am arande mona fey'adum].

Kanjo-juulde e kisndam tabiti dow makko- o wi,i katin:

((ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيزه ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم)) [متفق عليه].

[De lummbirgal JAHANNAMA walline mi laato arande mona tay'adum woodfi Du.aaw nulaabe nyannde ndeen du wo:Yaa,ALLA hisin hisin].

ABU SA,IID AL KHIDRIYU-ALLA yarro e makko- o w,i:

((بلغني أن الجسر أدق من الشعر و أحد من السيف)) [رواه مسلم].

**[Mi nani jummbirgal ngal na furi ngaasa(leemol)
sewde na furi labi welde].**

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- o wi,i:

((و ترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبي الصراط يمينا وشمالا ، فيمر أولكم كالبرق ، ثم كمر الريح ، ثم كمر الطير ، تجزى بهم أعمالهم ، ونببكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم ، حتى تعجز أعمال العباد ، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار)) [رواه مسلم].

**[Ndeen hoolaare e End'am nulee de ngara ndaro dow
tatteeji SIRAA'D gere nano e nyaamo fuf , de arande
moodfon falto hono mayyere de jokka hono mo
henndu de rewta mo hono foondu de rewta mo hono
doggudu koyngal , mona fuf alkara gollem ,
Annabaajo moodfon na dari dow SIRAA'DI na wi,a;
Joomam hisin hisin , faa golleeji jeyaaɓe kuɗngoo
(ronka) , faa gorko wara huɗngitoo yaade sa wana
daasagol o wi,i: na woni e foɗngo SIRAA'DI jammbuuje
cinndaafɓe jamiraafɓe naɗnga mo ɗe njamira wona e
yimbe ɗaasaafɓo dadi e dunyyaafɓo de saami nder
yiite].**

(SAPPO): KANDARA:

Na en ngoondina no wiide Muumini,en goondinbe so
be yabboke[lummbi]SIRAA'DI be ndaroto dow

Kandara kamle woni nokku gondo hakkunde Aljanna e Yiite Goondinbe faltiibe SIRAADI kisi Yiite na ndarnee doon faa yoga mabbe yomnitoo yoga yeeso naatugol Aljanna so be ne, aama be labbinaama duneneebe naatude Aljanna. Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko-wi,i:

((يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا)) [رواه البخاري].

[Muumini,en kisa e yiite de be ndarnee dow Kandara hakkunde Aljanna e yiite , de yoga e mabbe yomnito e yoga e toonyaaji gadunoodfi hakkunde mabbe nder Duniya].

Aljanna kam woni suudu teddeengal ndu ALLA resani hulbedum nyannde dargal , na woni nder mayru calludi(canndi) doggooji e cuudi toowdi e deekiraabe gardube , na woni nder mayru kala ko yonki tuuyata [muuyata] e ko gite mbeltorotoo dum ko yitere meeday yiide nowru meeday nande miilomuudum tobbaki e bernde fay gooto e yimbe , neema mayru re,ataa hantataako , wobe duumiibe nder mayru nga feeti tay'alla , alkadara waalorde dorwol ley mayru na buri Duniya e ko woni nderem fuf , uur ngol mayru na maate nde neddo waadi e mayru ndagu yaadu duubi capande nay , neema fuf burdo manngu nder mayru wo yiigol muumini,en joomiiben be njiirandum gite mabbe. Ammaa Heeferbe : kam'en kay wo wirnaabe e yiide joomiiben , ndelle kala jan'kirdo yiigol

muumini'en joomiiben nder Aljanna o fonndihakkunde mabbe e heeferbe ley ngal kaɗal. Na woni nder Aljanna Darajaaji teemedere ,mboddeefi ngonki hakkunde kala Daraja e Daraja fuf hono no kammu e leydi mbodfondiri nih , burɗo fuf toowde e Aljannaaji wo FIRDAWSI kumbbudi muudum wo AL-ARSHI ALLA na,o jogi dammbude jeetati , hakkunde seraaaji kala dammbugal na waadi hono hakkundeMAKKAH e HAJR warana ɗum nyalaande nde heewata ley muum ngam billundurgol , burɗum fuf famɗude e jipporde ɗunkee, en Aljanna mo jippordem wa,i hono Duniya e ndagum kile sappo. ALLA-toowɗo- wi,i haala Aljanna

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٣٣].

[Segilanaama wonande hulbe].

Kaŋko-toowɗo- o wi,i ley haala duumagol ɗunkee,en Aljanna e haala no wiide Aljanna re,ataa:

أَجْزَأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ [سورة البينة، الآية: ٨].

[Mbarjaari mabbe to joomiibe wo Aljanna inneteɗo ADAN calluɗi nandogga nderemuudum wo ɓe duumiibe ley mum abada ALLA yarroke e mabbe kambe du ɓe njarroke f muudum ɗum na woodani oon kulɗo joomum].

Ammaa Yiite kam woni: suudu jukkungo[lebte]ALLA segilaniindu wonande heeferbe e luttube , na woni ley mayru jukkungo naawgo e nooneeji lebte , Malayka,en

ngoni doomoobenge wo sattube tiidube , heeferbe wo duumotoobe nder magge ndeendi(nyaamee) mabbe ley magge wo lekki JAKKUUM, njaram mabbe wo nguldam .Yiite Duniya wo feccere wootere e pecce capande jeddi ittaadee nguli JAHANNAMA nange burdi yiite Duniya kile sapande jeegom e jeenay kilal gootal fuf na foti e yiite Duniya wulde maa na buri nge yiite nge sawtataa kala mona wattee ley magge faddee nder binndeere magge na nge wi,a Yalla beydaari na woodi nah? na nge jogi dammbude jeddi kala damal e majje fuf na jogi ngedum e mabbe , ALLA -toowdo- wi,i nder haalam e magge:

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٣١].

[Na nge segilanaa wonande heeferbe].

Kanjo-toowdo- o wi,i katin e nder haalgol makko haala duumagol dunkee,en yiite nge re,ataa:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا... ﴿٦٥﴾ [سورة الأحزاب، الآيتان: ٦٤، ٦٥].

[ALLA hudfi heeferbe o segilaniibe yiite hubbooye wo be duumiibe nder magge abada].

TINO(NAFOORE) GOON'DINGOL NYALAANDE SAKITOTOONDE:

Goondingol nyalaande sakitotoonde na jog nafaaji teddudi na woni e majji:

- 1) Njinngu golle dewe e himmireede e majje ngam jikkugol mbarjaari ALLA.

- 2) Hulgol golle luttal e yarraadedum ngam hulgol lette ndeen nyalaande.
- 3) Seynugol Muumini wonande dum ko faatortoodum nder Duniya ngam ko, o miijotoo e neema Laakara e mbarjaarim.
- 4) Goondingol ummital kam woni lasli mbelko, aaku (maleede) neddo gootoe deental yimbe fuf, sabu nde neddo goondini no wiide ALLA war mona ummintina yimbe caggal maayde mabbe de yamtabe ko be ngolluno de o barjoobe e dow golle mabbe oon de'o yomnito toonyiido wonande toonyaado fay daabaaji nde, o anndi dum fuf o fooccoto dowdewal ALLA, torra tayan ndeen de moy y ere huuba nder deental yimbe teddeengal e dey y ere kuuba.

NYUYGAL JEEGOBAL

[GOONDINGOL KODDORUYE]

(1) Anndingol dume won koddoruye e himmugol
goondinal mum

KODDORUYE woni: hoddirgol ALLA wonande kulle
[piiji] hono no ardori nder Andal makko de neenyal
makko hiiti , kam le na yeccoo faade e baawde ALLA ,
kanjo huunde fu imo waawi wo, o gadoowo ko, o muuyi
Goondingol Koddoruye na jeyaa e goondinal
Allanakaaku (jeyanakaaku) ALLA -sene woodaniimo o
toowi- duum wo gootel e nyuule goondinal de
goondinal timmataa gaaya mubben .
ALLA-toowdo- wi'i:

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٩].

[Minen huunde fuf men tagiriidum koddoruye].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- o wi,i:

((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ، أو الكيس والعجز)) [رواه مسلم]

**[Huunde fuf e koddoruye fay ronkere e
hayyilantaaku].**

(2) DARAJAJI KODDORUYE:

Goondinal koddoruye hibbataa so wanaa nde darajaaji
nay kayinyinaadiin ngoni:

GO,O: Goondingol anndal ALLA mbaɗaŋkeyal
piiliingal huunde fuf

ALLA-toowdo: wi,i:

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنْ يَتَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ [سورة الحج، الآية: ٧٠].

**[Yalla a anndaa no wiide ALLA na anndi ko woni nder
kammu e leydi d'um na woni e deftere na d'um newani
ALLA].**

DIDI: Goondingol winndeede nder LAWHUL-
MAHFUUZ[Alluwal deenaangal] kala ko ALLA anndi e
koddoruye, ALLA-toowdo-wi:

ا مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ... ﴿٣٨﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٨].

**[Men d'alay[men d'alaali] ley dewtere ndeen huunde
fuf].**

Mo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi,i:

((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة))
[رواه مسلم].

**[ALLA winndi koddorooje tageefo yeeso no,o taga
kammuuli e leydi duubi ujunaaje(buuluuje)capand'e
joy].**

TATI: Goondingol muuyde ALLA laatotoode e baawde
m kuubde ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَآؤَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ [سورة التكويد، الآية: ٢٩].

[On muuyataa so wanaa nde ALLA muuyi].

e koŋngol Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wonande oon biido,o: ko ALLA muuyi e ko muuydaa:

((أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده)) [رواه أحمد].

[A wadfaŋkam kawto ALLA? accu kaan wi,u ko ALLA muuyi kam tan].

NAY: Goondingol wo ALLA kam woni tagudo huunde fuf kaŋko-toowdo- o wi,i:

اللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ [سورة الزمر، الآية: ٦٢].

[ALLA kam woni tagudo huunde fuf kaŋko wo'o pirritotoodo e huunde fuf no'o muuyri].

O wi,i katin:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٦].

[ALLA tagi,on e ko ngolloton fuf].

Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi'i:

((إن الله يصنع كل صانع وصنعه)) [رواه البخاري].

[ALLA kam tagi kala tafoowo e ko o tafata fuf].

(3): PECCE KODDORUYE:

- a) Koddoruye kuubdo wonande kala kujje[piiji] oon koddoruye won binndaado nder LAWHIL-MAHFUUZ [ALLUWAL DEENAANGAL]gilla kammu e leydi tagaaka ko wadi duubi ujunaaje capandejoy.
- b- Koddoruye nguurndamkeejo: kanyum woni

hoddorde kala ko na yana dow jeyaado gilla watteede
yonki e nder muudum faa hantagol lajalmum.

ḥ-Koddoruye hitaandeejo: kam woni ko hoddora
wadān nder hitaande fuf duumle nyannde
LAYLATULKADRI[JEMMA KODDORUYE].

ALLA-toowdo- wi,i:

اِٰفِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ [سورة الدخان، الآية: ٤].

[Ley jemma oon kala fi ŋeenyuḍo feccetee].

c- Koddoruye nyalaandeejo: kam woni hoddorde dum
kona wada nder nyalaande yuude e teddeengal maa
koyeendam e dokkal e kadal , wuurnude e maaynude
e ko wanaa duum ALLA-toowdo- wi,i:

اِيسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ [سورة الرحمن،

الآية: ٢٩]

**[Wombe ley kammuuji e leydi na lamndoo,o nyannde
fuf omo woni e fi].**

**(4)GOON DINAL MOY'YUBE FALTIIBE NDER
KODDORUYE:**

ALLA kam woni taguḍo huunde fuf e joomum
jeyḍoḍum , kaṅko o hoddori koddoruye tageefooji
yeeso no,o tagabe , o winndii lajaluuji mabbe e Arjuki
mabbe e golleeji mabbe , o windi ko be wattinta faade
e muudum nde wo mbelko,aaku(maleede) maa
nyaṅko,aaku(malkiseede)kala huunde fuf o mobtiidum
nder dewtere makko baṅgunde.Ko ALLA muuyi fu
duumlaatoto ko,o muuyaali waawataa laataade,
omo anndi ko laati e ko warata laataade e ko laataaki

so laatokenhono laatoroto , kan̄ko won baawdo huunde fuf omo hanndo mo,o muuyi omo majjina mo,o muuyi . Yimbe jeyaabe kanyum,en du na njogi muuyde e baawde ibe ngollirade ko ALLA waawnibe wondude e tenynyoral no wiide kambe jeyaabe be muuyataa muuyde mabbe njanataa so wanaa nde ALLA muuyi. ALLA-toowdo- o wi,i:

ا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا... ﴿ [سورة العنكبوت، الآية: ٦٩].

[‘Been habube JIHAAD ngam amen warmona men kandoobe laabi amen].

ALLA kam woni tagudo yimbe e golleeji mabbe fuf , kambe du won golloobe golleeji diin pay , Hujja woodantaa gooto fuf dow ALLA ley golle parraado mo o yeebi o gollaydum , maa golle karminaado mo,o golli accu kaan fes wo ALLA kam tan jogi Hujja jottiido dow yimbe , ana dago dallinoraade koddoruye dow bonandaaji wanaa dow ayiibeeji e bakkatuuji [junuubaaji] hono ko wari e koŋngol Nulaado-juulde e kisndam tabiti dow makko- nder wennjugol MUUSA wo nande AADAMA :

تحتاج آدم وموسى ، فقال موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيبتك من الجنة ، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى)) [رواه مسلم].

[AADAMA e MUUSA wenynyunduri MUUSA wiimo: Aan woni AADAMA mo woowrema(faljerema)yaltinima Aljanna AADAMA wiimo: Aan woni MUUSA mo ALLA subiima e nelem e haalam de adfa felakam dow huunde nde ALLA hoddoridum dow am yeeso numi

tage, ndeen AADAMA wenyjimo libimo burimo goonga]

(5)GOLLEEJI JEYAABE:

Golleeji di ALLA -toowdo-woni tagude nder winndere [tagu] na pecco pecce didi:

GO, OBERDE: Ko ALLA -toowdo-woni wadude nder tagaabem e golleeji , diin muuyde e subagol walanaa neddo fuf e majji muuydedeen deen ko ALLA tan ngoodani , ndagu wuur nugol e maaynugol , e nyaw e cellal. ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ [سورة الصفات، الآية: ٩٦].

[ALLA tagi,on e ko ngolloton fuf].

o wi,i katin:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ [سورة الملك، الآية: ٢].

[Oon tagufo maayde e nguurndam faa jarriboo,on may e moodon buri moyyude golle].

DIDABERDE: Dum ko tageefo joomiraabe muuyde ngadata dum na laato e subagol gaddodum e muuyde muudum sabu ALLA wadi dum faade e mabbe ALLA-toowdo- wi,i:

ا لِمَنْ شَأَوْ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿ [سورة التكوير، الآية: ٢٨].

[Wonande oon muuyfo e moodon foccaade].

o wi,i katin:

ا... فَمَنْ شَأَوْ فليؤمن ومن شَأَوْ فليكفر... ﴿ [سورة الكهف، الآية: ٢٩].

[Oon muuyfo wo goondin oon muuyfo wo luttu].

de ibe njette e muuyde jettiniide e majje ibe pele e

pelniide e majje , ALLA jukkataako so wanaa dow fi mo muuyde jeyaado e subagol mum woni e muudum hono no kanjo-toowdo- o wi,i:

ا... وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ [سورة ق، الآية: ٢٩].

[Miin mi wanaa toonyotoofa jeyaabe].

Neddanke le na anndi cenndiigu hakkunde subagol e tilsugol omo jipporo *y eer rugal* yuude e kummbudi jippagol belngol, o na waawi du goddo liba, o y uude e kummbudi toon , ndelle aranum dum wo, o jippori no welirimo ammaa didabum dum o jipporeke tilay wo o dooldaado.

(6): REENTINGOL HAKKUNDE TAGU ALLA E GOLLE J EYAABE:

ALLA tagi jeyaadom de o tagi golleejim , o wadani oon muuyde e baawde , sabo omo jogi muuyde e baawde so o goondini wo e muuyde ALLA , so, o lutti wo e muuyde ALLA timmude o luttiri hono so en mbi,i: bii lekki ki e makki y uuri, ndi aawdi wo nder ndi leydi yuuri , firo duum: wo e mayri aawdi ndiin fudi , ndi yuuri to ALLA du sabu kamtagi kayri aawdi y uude e leydi ndiin ndelle liddundiral walaa doon , nih SHARIYA ALLA e koddoruye muudum kawrirta.

ALLA-toowdo- wi,i:

ا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٦].

[ALLA kam tagi,on e ko ngolloton fuf].

o wi'i katin:

أَفَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾
 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

﴿سورة الليل، الآيات: ٥-١٠﴾

[Oon kokkudfo jawdim de huli ALLA de goondini ko woodfi warma no men newnana mo wonande neway , kaa oon dawfo(wuddudfo) de waawi kaariyade fenni ko woodfi oon du warma no min newnanadum wonande ko tiidi].

(7): KO TILSI DOW JEYAADO NDER KODDORUYE:

Na tilsi dow jeyaado nder koddoruye kulle [piiji] didi:

G'O: No'o fawtonoro ALLA e gollugol ko hoddora e wodditagol ko hadaa, o rooko [toro] ALLA newnanamo wonande neway woddinamo ko tiidi , de o tuugo dow ALLA o moloroodum, o laato wo'o katingindo faade e ALLA ley filagol moy y ere e dalugol torra Annabijjo -juulde e kisndam tabiti dow makko- wi'i:

((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان)).

[Himmira dow ko nafete de pawtonoro faa ALLA fati jaasu so tawi wonko hebima fati wi'u:so mi wadiino nih fu nih laatotonoo kaanoon wi'u:ALLA kam hoddori de golliko muuyi sabu wiigol(tawenoo) wo udditan damal seyfaani].

DIDI:Na tilsi dow makko o sawro [munya]dow ko hoddora dow makko fati o hula , wo o anndu duum to

ALLA y uuri de o yarro o silma o annda ko hebi'o dūm waawataano woofude'o ko woofi'o dūm du waawataan o hebude'o. Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi'i:

((واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك)).

[Anndu ko hibimaa dūm wawataano woofudema ko woofimaa dūm du wawataano hebudema].

(8): YARRAGOL(WELTORGol) KIITE E KODDORUYE:

Na tilsii yarragol koddoruye sabu dūm hollata kibbal yarragol Allankaaku ALLA , na wajibi dow kala oon goondindo no yarro kiite ALLA , sabu golle ALLA e kiitem fuf wo moy y ere tan e jaadilal e njeenyal , oon mo yonkim deeyi faade e faamugol yalla kala ko hewtimo laataakino na woofa'o ko woofi'o du laataakino na hebamo yonkim ferwan e sadawere e sikisakka , cunu riiwtoto nder nguurdam makko , o sunataako e ko faatoriimo o hulataa ko warantamo ley nguurdam du ndeen o laato omo buri yimbefuf mbelko'aaku e welde bernde e deey ugo Alhaali, oon anndudo yalla lajal mum woko heyya arjuku muudum woko lima kulol beydataa nguurdam kadal[nguddam beydataa jawdi dūm fuf wo ko winnda to ALLA ndelle neddo sawro de munya e dūm ko hewtidum e masiibaaji de dabba yaafeede ko'o wadi e goofi e ayiibeeji , de o yarro ko ALLA hoddirani'o , ndeen o hawrundura hakkunde dwtanaade yamiroore e munyal e sawraare e nder masiibaaji. ALLA-toowdo- wi'i:

ا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ [سورة التغابن، الآية: ١١].

[Masiiba fuf laataaki na jippo so wanaa e duje ALLA oon goondinƙo ALLA ,ALLA handoto bernde makko faade e goondinal ALLA wo annduƙo huunde fuf].

o wi'i katin:

ا فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ ﴿٥٥﴾ [سورة غافر، الآية: ٥٥].

[Sawra(munyu)no wide fodoore ALLA wo goonga de d'abba yaafaneede junuubaaji maad'a].

(9): KANDAY(PEEWAL)WO NOONEEJI DIDI:

GO'O: Handaade hollugol goonga , oon kanday le na woodani tageefo fuf ,on woni mo nulaabe e jokkufe dum'en mbaawi de ngadi ALLA-toowdo- wi'i:

ا وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ [سورة الشورى، الآية: ٥٢].

[Aan ad'a hando faade e laawol pocciingol].

DIDABO:Kanday kawrindinal e tabintinde oon kanday le wo dokkal y uude to ALLA e bural makko wonande jeyaabe makko hulbe njokkimo oon kanday woni mo nulaabe mbaawa hokkude gooto fuf . gooto fuf wawaa hokkude oon kanday so wanaa ALLA tan kanƙo-toowdo - o wi'i:

ا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿٥٦﴾ [سورة القصص، الآية: ٥٦].

[Aan a handataako mo njid'fa kaanoon ALLA kam handoto mo muuyi].

(10): MUUYAL NDER DEWTERE ALLA WO NOONEEJI
DIDI:

GO'O: Muuyde tagoore koddoraade kam woni :
muuyde ALLA kuubudo kala ko woodaa , ko ALLA
muuyi fuf laato , ko'o muuyaali laatataako , deen
muuyde won tilsinooje yanugol ko muuyaa duum de
tilsintaa njiŋngu e yarragol so wanaa nde muuyde
Diinayan̄kooje cinndi(yowondiri)e majje ALLA-toowdo-
wi'i:

اَفَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ... ﴿ [سورة الأنعام،
الآية: ١٢٥].

**[Oon mo ALLA muuyi handaadedum o yaajina bernde
muudum wonande Alsilaamaaku].**

DIDI:Muuyde Diinayan̄kooje , deen ngoni yidugol
muuyde deen e duŋkee'en(yimbe) muudum e yarrade
e mabbe, de muuyde du tilsintaa laatagol ko muuya
duum faa muuyde taguyan̄keeje deen cinndo e
muudum.ALLA-toowdo- wi'i:

...يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥].

**[ALLA na muuyana'on neway de o muuyantaa'on
tiid'alla].**

Muuyde taguyan̄kooje deen le kam'en furi huubude
sabu kala muuyde Diinayan̄kooje laatiide wo muuyde
taguyan̄keeje, kaanoon wanaa kala muuyde
taguyan̄keeje wo ko muuya nder diina , sabu
goondinal ABUUBAKAR- ALLA yarro e makko- muuyde
didi fuf kawri e muudum , ammaa luttal ABUJAHLI
goonday e mum so wanaa muuyde taguyan̄keeje ,

hono ko goonday e muudum muuyde taguayan̄kooje faysi tawi na yida ley SHARIYA goondinal ABUJAHILI. ALLA faysi o laati omo hoddori lutte omo muuyide nder tagu kaanoon o yidaa lutte o yarraakide o yamirtaade , omo tikkanide omo wanyide omo hadade omo fodani joomiije lepte duum fuf wo e koddoruye makko. Amma dewe e goondinal omo yidi dum'en omo yamira e mubben omo fodani jom dewal fuf mbarjaari moyyundi sabo kan̄ko-sene woodanii'o- o luttataake ngafeeti muuyde makko ko'o muuyay fu wadataa o wi'i:

ا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ... ﴿ [سورة الزمر، الآية: ٧].

[O yarrantaako jeyaaɓe makko luttal].

kan̄ko-sene woodanii'o- o wi'i katin:

ا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿ [سورة البقرة، الآية: ٢٠٥].

[ALLA yidaa bonanda].

(11): SABABUJI DUNY'YITTOOJI KODDORUYE:

ALLA wadani dii koddoruyeeji sababuyeeji dunyy'itoojidi de bantadi kadadi laataade na jeyaa e diin sababuuji DU'AAW e ittude sadaka e cafaaje [lekkeele]e reentagol e gollirde hay'y ilantaaku , wawtu tawa huunde fuf wo e koddoruyeeje ALLA laatorotoo fay jaayre e hayyilantaaku.

(12): MAS'ALA: KODDORUYE WO SIRRI(GUNNDE)

ALLA:

Wiigol koddoruye wo sirru ALLA nder tageefo muudum wo ko heertora sen̄go suudiingo e koddoruye,sabu goonga kulle[piiji]neddo fuf

anndaadum so wanaa ALLA , kanƙo du o y'ellintintaa d̄um yimbe yeru: ALLA majjini yimbe o handi wobbe o maaynibe o wuurni wobbe o hokki o hadi hono ko Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi'i:

((إذا ذكر القدر فأمسكوا)). [رواه مسلم].

[So haala kadar(koddoruye haalaama fu nantodfon)].

Ammaa seraaji koddoruye goddidiin e n̄eenye muudum mawdee darajaaji mum e tabemum,dee ka fuf na dago anndudedum e holludedum yimbe sabu koddoruye wo gootel e nyuyle goondinal kaande jaɗgeede e anndeede , hono no Annabiijo-juulde e kisndam tabiti dow makko- wi'i nde o humpitinno -juulde kisndam tabitin dow mum- nyuyle goondinal: o wi'i:

((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) [رواه مسلم].

[Oo wo JIBRIILU wari fa anndina'on Diinamon] .

(13): DALLINORAADE KODDORUYE:

Anndal ALLA-toowdo-adiingal d̄um ko na wara laataade wo ko wiirni[ɗaybu] neddo fuf anndaa d̄um so wanaa ALLA ,dagataako yoppude [dalde]golle ngam tuugagol dow ko falti nder kiite sabu koddoruye wanaa Hujja wonande gooto fuf dow ALLA maa dow gooto e tageefom,sotawiino na dagotono mona fuf dallinoro e koddoruye wonande bonanda gollemfuf gooto fuf jukkataake saabe toonyeke , cirkiido du warataake haddu darnataake gooto du selataa toonyaade, d̄um le kam woni hattirde bonanda

anndaado nder Diina e Duniya fuf. Ndelle na'en mbi'ana oon dallinortoodo koddoruye a jogaaki anndal tenynyoral yalla aan wo e yimbe Aljanna naa e yimbe yiite njejada , so tawi ada anndunoo duum men njamirtaanoma men kadataama , kaanoon gollu yaama ALLA hokke kawrindinal faa laatoda e dunkee' en AlJanna.Yoga e Sahaaba,en nde nanno Hadiisaaje koddoruye de wi'i: mi laataaki mido bur noo tinnaare arande e joonin.Annabiijo -juuld e kisndam tabitin dow mum- nde'o lamndanoo kiite dallinoragol koddoruye o wi'i:

((اعملوا كل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾﴾ [سورة الليل، الآيات: ٥-١٠].

[Ngollee mona fuf na newnanaa ko tagiraa saabem oon laatiidfo e dunkee'en mbelko'aaku newnanete gollal dunkee'en mbelko'aaku oon laatiidfo e dunkee 'en nyaanko'aaku newnanee gollal dunkee'en nyaanko'aaku , rewti ojanngi: [Oon kokkudfo jawdim de huli ALLA de goondini ko woodfi warma no men newnana mo wonande neway kaa oon dawfo de waawi kaariya de fenni ko woodfi oon du warma no min newnanadum wonande ko tiidfi].

(14): JOGITAGOL SABABUYEEJI:

Ko hebata jeyaado wo gootel e kulle didi, fi mo baawde
 makko ngoni emuudum o huɗngantaakodum
 (ronkataadum) , e fi mo baawde makko ngalaa e
 muudum fati o huladum, sabo ALLA-toowdo- na anndi
 masiibaaji fuf yeeso nodi njana, wanaa anndal makko
 ngaal wadi de di caami dow makko kaanoon ALLA
 wadani kala huunde fu sabaabu so tawi yanugol
 diin masiibaaji dow jeyaado wo ngam yeebagol makko
 yoga e sabaabuui e kulle kiinooje'o e yanugol makko
 e majji tawi Diina makko du na yamiri'o gollitirde di so
 tawi noon fu wo'o pelniido dow yeebagol makko
 reenude hoore makko e rafi gollitirgol diin sababuui
 deenooji'o so tawi baawde ngalanaa'o e dunyy itingol
 oon masiiba du ndeen kaa geldol na woodanimu.
 Ndelle jogitagol sababuyeeji lurra e koddoruye e
 tuugagol kaanoon wo feccere e majjum so tawi
 koddoruye yani e neddo du tilsi dow makko o yarro
 o silma o wirfito faade koɗngol Annabi [ALLA hoddori
 ko'o muuyi laatoto], Amma yeeso no dum wada na tilsi
 dow killifaado fuf jogitagol sababuyeeji dagiidi e
 dunyyitinde koddoruye e koddoruye , ngam
 Annabaabe njogitekeno sababuyeeji dina ndeenabe
 e wanybe mabbe duum e laatagol mabbewo be
 sembiniraabe WAHYU e ndeenka ALLA ,Nulaado
 ALLA-juuld e kisndam tabiti dow mum- hooreejo
 tuugitiibe laatokeno na jogitoo sababuyeeji kam e
 manngu tuugagol makko dow joomiiko.
 ALLA-toowdo- wi'i:

اَوَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿ [سورة الأنفال، الآية: ٦٠].

**[Cegilanaabe ko mbaawfon e semmbe e kabborde
pucci na on kulfiniraɗum waybe ALLA e wanybe
moodon].**

o wi'ikatin:

اَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ [سورة الملك، الآية: ١٥].

**[Kaŋko waɗani'on leydi ko elta njehee nder tatte
mayri de nyaamon e arjuki mayri feede e makko
ummital].**

Annabiijo-juuld e kisndam tabitin dow mum- wi'i:

((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت
كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل
الشیطان)). [رواه مسلم]

**[Muumini(goond'ind'o)jom semmbe kam buri
moy'yude e yi'feede to ALLA gaaye Muumini lo'ud'o
kaanoon moy'yere na woni e maɓbe be fuf , Himmir
dow ko nafete de pawtonoroɗaa ALLA fati jaasu
sotawi won ko hebima fati wi'u:so mi waɗiino nih fu
nih laatotonoo kaanoon wi'u:ALLA kam hoddori de
golliko muuyi sabu wiigol(tawenoo) wo udditan damal
seyɗaani].**

(15): KIITE OON JANJKIRDO KODDORUYE:

Oon jaŋkirdo koddoruye hakiika o yaŋkiri lasli jeyaado e lasliiji SHARIYA hakiika du o heefordi yoga moyyube welliibe wi'i:

((ناظروا القدرية بالعلم ، فإن جحدوه كفروا ، وإن أقرأوا خصموا))

[Kaɓdee e KADARIYA(fennube koddoruye)anndal so ɓe njaŋkiriidum ɓe keefordɓa so ɓe tabintiniidum du ɓe libaama].

(16):TINO GOONDINGOL KODDORUYE:

Goondingol kiite e koddoruye na jogi faydaaji lobbi e tabeeji ŋardudi ,ɗina nafa tomottare e teeldo fuf nafiraɗum'en moyyuki na woni e ɗiin faydaaji:
a-Na ɗum rima nooneeji keewdi e dewe moyye e sifaaji jettiniidi hono labɓingol Anniya wonande ALLA , e tuugaade dow mum e hulde'o e jikkude e moyyude jikku wonande'o e munyal e mawɗum sawraare e yarraademo e rafi tay'ugol jikke e teeldingol yettoore wonande ALLA , e seyagol ngam teddeengal makko e hinney , leeyinkinanagol ALLA e ɗalgol mawnitaare e ɗuurtaare , e heewgol dokkal wonande kala geese moyyere ngam hoolagol ALLA , cuusal e feetugol e baawal kaariya(gondinaare)e teddeengal yoŋki , e toowgol haaju , e soobey e kulle, e potal ley koyeefi e tiidalla fuf e rafi haasidaare naɗum rimɗina hayyillo e pewe naɗum ŋootina yoŋki naɗum sabinbina deyyere bernde.

b-Goondindo koddoruye na jokka ley nguurndam mumlaawol potungol , heewgol neema wadataamo

mawnitiido , o tayataa jikke ngam masiiba hewtiimo omo teyora(felliti) ko hewti'o e torra wo e koddoruye ALLA ngam jarribaade'o o hulataa omo munya omo jikka mbarjaari to ALLA.

b- Na reena e sababuuji lallere(majjere) e bonanda timmoode sabo wo'o kaboowo e yonki makko fos dow dartagol e hebbingol golleeji lobbi e wodditagol goofi kalkooji.

c- Na dūm rimana Muumini'en waawgol daraade yeeso tiidalla be ndaroro bernde tabitinde e teyoral kibbungal kam e wadde sababuyeeji, Annabiijo -juuld e kisndam tabitin dow mum- wi'i:

((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)) [رواه مسلم].

[Kaayee fi na woni e fi Muumini no wiide fi muudum fuf wo ko woodfi dūum walanaa nedfo fuf so wanaa muumini so seyo hibii'o o yetta de dūm laatonoo'o moyyere so tawi torra hebi'o o munya de dūm laatonoo'o moyyere].

NAARRUDE

NYUUYLE GOONDINAL ===== 2

NYUUGAL GO'ABAL:

{GOONDINGOL ALLA} =====6

TEDDEENGAL TAWHIID =====17

HAYINYINGOL TAWHIID =====17

LIDDI TAWHIID =====19

DALIILAAJI GOOTUMMBAAKU ALLA=====23

NYUUYGAL DIDABAL:

{ GOONDINGOL MALAYKAABE}=====27

NYUUYGAL TATABAL:

{GOONDIGOL DEWTE} =====38

NYUUYGAL NAYABAL:

{GOONDINGOL NULAABE} =====50

NYUUYGAL JOYBAL:

{GOONDINGOL NYALAANDE SAKITOTOOBE} == 72

NYUUYGAL JEEGABAL:

{GOONDINGOL KODDURUYE} =====99